



THE NATIONAL ASSEMBLY OF PAKISTAN

Tuesday, the 10th February, 2026

TABLE OF CONTENTS

1. RECITATION FROM THE HOLY QUR`AN.....	1
2. RECITATION OF HADITH	1
3. RECITATION OF NAAT.....	2
4. NATIONAL ANTHEM	2
5. POINTING OUT THE LACK OF QUORUM.....	2
6. ANNOUNCEMENT <i>REG:</i> PRESENCE OF STUDENTS AND FACULTY MEMBERS OF THE OPF, GIRLS COLLEGE, ISLAMABAD IN THE GALLERY	3
7. LEAVE OF ABSENCE	3
8. CALLING ATTENTION NOTICE <i>REG:</i> PAKISTANI STUDENTS STRANDED IN AFGHANISTAN DUE TO CLOSURE OF BORDER – (<i>ANSWERED</i>)	6
9. THE TRADE ORGANIZATIONS (THIRD AMENDMENT) BILL, 2026 – (<i>INTRODUCED</i>)	8
10. THE PROHIBITION OF MANUAL SCAVENGING AND PROTECTION OF SANITATION WORKERS (ICT) BILL, 2026 – (<i>INTRODUCED</i>)	10
11. THE RAILWAY CONNECTIVITY AND MODERNISATION BILL, 2026 – (<i>INTRODUCED</i>)	11
12. THE UNIVERSITY OF STRATEGIC KNOWLEDGE BILL, 2026 – (<i>REJECTED</i>)	12
13. MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT – (<i>ADOPTED</i>)	12
14. REPORT ON THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL, 2024 (SCHEDULE – II) – (<i>PRESENTED</i>)	13
15. MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT – (<i>ADOPTED</i>)	13
16. REPORT ON THE CRIMINAL LAW (AMENDMENT) BILL, 2024 (SECTION 498AA) – (<i>PRESENTED</i>)	14
17. MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT – (<i>ADOPTED</i>)	14

18. REPORT ON THE CIVIL SERVANTS (AMENDMENT) BILL, 2025 – (PRESENTED)	15
19. MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT – (ADOPTED)	15
20. REPORT ON THE CIVIL SERVANTS (AMENDMENT) BILL, 2024 – (PRESENTED)	15
21. MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT – (ADOPTED)	16
22. REPORT ON THE SERVICE TRIBUNALS (AMENDMENT) BILL, 2025 – (PRESENTED)	16
23. MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT – (ADOPTED)	16
24. REPORT ON THE NATIONAL COMMISSION ON THE RIGHTS OF CHILD (AMENDMENT) BILL, 2025 – (PRESENTED)	17
25. MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT – (ADOPTED)	17
26. REPORT ON THE CHILD MARRIAGE RESTRAINT (AMENDMENT) BILL, 2024 – (PRESENTED)	17
27. MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT – (ADOPTED)	18
28. REPORT ON THE NATIONAL COMMISSION ON THE RIGHTS OF CHILD (AMENDMENT) BILL, 2024 – (PRESENTED)	18
29. MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT – (ADOPTED)	19
30. REPORT ON THE CORROSIVE SUBSTANCES ASSAULT (PREVENTION AND PROTECTION) BILL, 2024 – (PRESENTED)	19
31. MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT – (ADOPTED)	19
32. REPORT ON THE PAKISTAN GENERAL COSMETICS (REPEAL) BILL, 2025 – (PRESENTED)	20
33. MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT – (ADOPTED)	20
34. REPORT ON THE INDUSTRIAL RELATIONS (AMENDMENT) BILL, 2025 – (PRESENTED)	21
35. MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT – (ADOPTED)	21
36. REPORT ON THE NATIONAL COMMISSION FOR MINORITIES’ RIGHTS BILL, 2025 – (PRESENTED)	22
37. MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT – (ADOPTED)	22
38. REPORT ON THE ISLAMABAD CAPITAL DOWRY RESTRAINT BILL, 2025 – (PRESENTED)	22
39. ANNOUNCEMENT REG: PRESENCE OF A GROUP OF THE STUDENTS AND FACULTY MEMBERS FROM THE CITY SCHOOL LAHORE IN THE GALLERY	23
40. MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT – (ADOPTED)	23
41. REPORT ON THE ISLAMABAD (PRESERVATION OF LANDSCAPE) (AMENDMENT) BILL, 2025 – (PRESENTED)	23
42. MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT – (ADOPTED)	23

43. REPORT ON THE CRIMINAL LAW (AMENDMENT) BILL, 2025 – (PRESENTED)	24
44. MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT – (ADOPTED)	24
45. REPORT ON THE STARRED QUESTION NO. 146 REFERRED TO THE COMMITTEE ON 25TH OCTOBER, 2024 – (PRESENTED)	24
46. MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT – (ADOPTED)	25
47. REPORT ON THE STARRED QUESTION NO. 148 REFERRED TO THE COMMITTEE ON 25 TH OCTOBER, 2024 – (PRESENTED)	25
48. MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT – (ADOPTED)	25
49. REPORT ON THE AMENDMENT IN RULE 119 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN THE NATIONAL ASSEMBLY, 2007 – (PRESENTED)	26
50. MOTION FOR REFERRAL OF THE INTERNATIONAL EXAMINATION BOARD BILL, 2025, TO THE JOINT SITTING FOR PASSAGE, AS PASSED BY THE NATIONAL ASSEMBLY AND NOT PASSED BY THE SENATE WITHIN 90 DAYS – (REFERRED)	26
51. THE CAPITAL DEVELOPMENT AUTHORITY (AMENDMENT) BILL, 2026 – (INTRODUCED)	26
52. DISCUSSION UNDER RULE 87 REG: THE PROLONGED DELAYS BEING FACED BY THE PASSENGERS AT JINNAH INTERNATIONAL AIRPORT, KARACHI, PARTICULARLY DURING THE IMMIGRATION CLEARANCE AND ARRIVAL PROCESSING – (REFERRED)	27
53. AMENDMENTS TO THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN THE NATIONAL ASSEMBLY, 2007 – (ADOPTED)	34
54. AMENDMENT TO THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN THE NATIONAL ASSEMBLY, 2007 – (ADOPTED)	34
55. CALLING ATTENTION NOTICE REG: THE EMERGENCE OF NEW POLIO CASES IN THE COUNTRY – (DEFERRED)	36
56. POINTS OF ORDER.....	36

NATIONAL ASSEMBLY OF PAKISTAN ASSEMBLY DEBATES

Tuesday, the 10th February, 2026

The National Assembly of Pakistan met in the National Assembly Hall (Parliament House) Islamabad, at 11:07 a.m. with the honourable Deputy Speaker (Syed Ghulam Mustafa Shah) in the Chair.

RECITATION FROM THE HOLY QUR'AN

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلنَّاسِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٥٣﴾ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَأْ يُرْسِلْ عَلَيْكُمْ حَمِيمًا أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿٥٤﴾ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زُبُورًا ﴿٥٥﴾ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾

(سورة بنی اسرائیل، آیات: 53 تا 56)

[ترجمہ: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔

میرے (مومن) بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کہا کریں جو بہترین ہو۔ درحقیقت شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے، شیطان یقینی طور پر انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرمادے، اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے، اور (اے پیغمبر!) ہم نے تمہیں ان کی باتوں کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اور تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اور ہم نے کچھ نبیوں کو دوسرے نبیوں پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ (جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو مانتے ہیں ان سے) کہہ دو کہ: ”جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے، انہیں پکار کر دیکھو۔ ہو گا یہ کہ وہ تم سے کوئی تکلیف دور کر سکیں گے اور نہ اسے تبدیل کر سکیں گے۔“]

RECITATION OF HADITH

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: *لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ

[ترجمہ: نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ رشک کے قابل تو دو ہی آدمی ہیں۔ ایک وہ جسے اللہ نے قرآن دیا اور وہ اس کی تلاوت دن رات کرتا رہتا ہے اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے رات و دن خرچ کرتا رہا۔]

RECITATION OF NAAT

حبیب رب العالی محمد شفیع روز جزا محمد
نگاہ کا مدعا محمد خیال کا آسرا محمد
درود بھیجا ہے خود خدا نے
رموز کوان کے کون جانے
کہیں وہ محمود کبریا تھے
کہیں لقب ان کا تھا محمد
اسی تمنا میں جی رہا ہوں
کہ جا کے روضہ کی جالیوں پر
سناؤں حال دل میں ان کو
سنیں میرا ماجرا محمد

NATIONAL ANTHEM

POINTING OUT THE LACK OF QUORUM

جناب ڈپٹی سپیکر: اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ! جنید اکبر صاحب کا مائیک کھولیں۔
جناب جنید اکبر: جناب ڈپٹی سپیکر! جو لوگ آگے بیٹھے ہیں۔ میں ان کے خلاف احتجاج میں quorum کی نشاندہی کرتا ہوں۔ آگے بیٹھنے سے کوئی آدمی آگے نہیں بڑھ جاتا۔

Mr. Deputy Speaker: Ok. Count be made.

(گنتی کی گئی)

Mr. Deputy Speaker: House is not in Order. We take a break till the House is in Order.

(The Proceedings of the House were suspended till the completion of quorum.)

(اجلاس کی کارروائی 11 بج کر 55 منٹ پر زیر صدارت جناب ڈپٹی سپیکر دوبارہ شروع ہوئی)

Mr. Deputy Speaker: Count be made.

(The count was made)

Mr. Deputy Speaker: The House is in order.

ANNOUNCEMENT REG: PRESENCE OF STUDENTS AND FACULTY MEMBERS OF THE OPF, GIRLS COLLEGE, ISLAMABAD IN THE GALLERY

Mr. Deputy Speaker: The honourable Members are informed that the students and faculty Members of the OPF, Girls College, Islamabad are sitting in the visitors' gallery. We welcome them.

LEAVE OF ABSENCE

Mr. Deputy Speaker: Leave applications.

Mr. Deputy Speaker: Mr. Zulfiqar Bachani has requested for the grant of leave for 23rd Session. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Deputy Speaker: Mr. Khurram Shahzad Virk has requested for the grant of leave for 2nd and 3rd February, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Deputy Speaker: Pir Ameer Ali Shah Jeelani has requested for the grant of leave for 2nd and 3rd February, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Deputy Speaker: Ms. Asiya Naz Tanoli has requested for the grant of leave for 2nd and 3rd February, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Deputy Speaker: Raja Qamar Ul Islam has requested for the grant of leave for 2nd and 3rd February, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Deputy Speaker: Mirza Ikhtiar Baig has requested for the grant of leave for 6th February, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Deputy Speaker: Ms. Gulnaz Shahzadi has requested for the grant of leave for 6th February, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Deputy Speaker: Mr. Muhammad Ijaz-ul-Haq has requested for the grant of leave from 6th February, 2026 till the conclusion of the Session. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Deputy Speaker: Ms. Asma Alamgir has requested for the grant of leave for 6th and 9th February, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Deputy Speaker: Ms. Erum Hamid has requested for the grant of leave for 6th, 9th and 10th February, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Deputy Speaker: Syed Rafiullah has requested for the grant of leave for 3rd and 6th February, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Deputy Speaker: Ms. Muneeba Iqbal has requested for the grant of leave for 9th and 10th February, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Deputy Speaker: Mr. Muhammad Jawed Hanif Khan has requested for the grant of leave for 9th February, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Deputy Speaker: Mr. Muhammad Ameer Sultan has requested for the grant of leave for 9th February, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Deputy Speaker: Mian Ghous Muhammad has requested for the grant of leave for 9th and 10th February, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Deputy Speaker: Mr. Mujahid Ali has requested for the grant of leave for 9th and 10th February, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Deputy Speaker: Rana Iradat Sharif Khan has requested for the grant of leave for 6th February, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Deputy Speaker: Ms. Saba Talpur has requested for the grant of leave for 6th, 9th and 10th February, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Deputy Speaker: Mr. Nazir Ahmed Bhugio has requested for the grant of leave from 2nd to 6th February, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Deputy Speaker: Mr. Muhammad Khan Daha has requested for the grant of leave for 6th February, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Deputy Speaker: Ms. Farakh Khan has requested for the grant of leave for 3rd and 6th February, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Deputy Speaker: Mr. Sanjay Perwani has requested for the grant of leave for 3rd and 6th February, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Deputy Speaker: Mr. Hameed Hussain has requested for the grant of leave for 6th February, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Deputy Speaker: Dr. Mahesh Kumar Malani has requested for the grant of leave from 10th February, 2026 till the conclusion of the Session. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Deputy Speaker: Malik Shakir Bashir Awan has requested for the grant of leave for 10th and 11th February, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Deputy Speaker: Choudhary Iftikhar Nazir has requested for the grant of leave for 2nd and from 6th to 10th February, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Deputy Speaker: Mr. Khurram Munawar Manj has requested for the grant of leave for 9th February, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Deputy Speaker: Mr. Hafeez Ur Rehman Khan Drishak has requested for the grant of leave from 2nd to 12th February, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Deputy Speaker: Mr. Zahoor Hussain Qureshi has requested for the grant of leave for 9th February, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Deputy Speaker: Mr. Faisal Amin Khan has requested for the grant of leave for 9th February, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Deputy Speaker: Malik Muhammad Iqbal has requested for the grant of leave from 9th to 12th February, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Deputy Speaker: Makhdoom Tahir Rashid Ud Din has requested for the grant of leave from 9th to 13th February, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Deputy Speaker: Ms. Shamaila Rana has requested for the grant of leave for 9th February, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Deputy Speaker: Mr. Ahmad Raza Maneka has requested for the grant of leave for 10th February, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Deputy Speaker: Ms. Kiran Imran Dar has requested for the grant of leave for 6th February, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

CALLING ATTENTION NOTICE REG: PAKISTANI STUDENTS STRANDED IN AFGHANISTAN DUE TO CLOSURE OF BORDER

جناب ڈپٹی سپیکر: جی. 2. Item No. انجم عقیل خان صاحب۔

Mr. Anjum Aqeel Khan: I invite attention of the Minister for Foreign Affairs, to a matter of urgent public importance regarding Pakistani students stranded in Afghanistan due to closure of border, causing grave concern amongst the public.

جناب ڈپٹی سپیکر: کون respond کریں گے؟ طارق فضل چوہدری صاحب۔

وزیر برائے پارلیمانی امور (جناب طارق فضل چوہدری): شکریہ جناب ڈپٹی سپیکر! honourable Member نے جس مسئلے کی Calling Attention Notice میں نشاندہی کی ہے، بنیادی طور پر جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان border ہے، وہ اکتوبر 2025 سے بند ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ افغانستان سے پاکستان کی border کے ساتھ ساتھ ہماری جو چوکیاں ہیں اور ہماری جو وہاں پر lands ہیں، وہاں پر تحریک طالبان جو ہے، افغانستان کی سرزمین سے، اور افغان حکومت کی سرپرستی میں، وہاں پر فائرنگ ہوئی، پاکستان کی چوکیوں پر فائرنگ

ہوئی، جس کے نتیجے میں جو صورتحال ہے border پر وہ خاصی کشیدہ رہی، اور آج تک Afghan government جو ہے وہ Government of Pakistan کو یہ assurance دینے میں ناکام ہے کہ افغانستان سے پاکستان میں جو دراندازی ہے وہ بند ہوگی، جس کی وجہ سے پاک افغان border بند ہے۔

جن students کی یہ بات کر رہے ہیں، ان میں سے تقریباً 1100 واپس پاکستان آچکے ہیں۔ ان میں 26 students ایسے ہیں جو land route کے ذریعے آئے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ فضائی راستے سے پاکستان میں آئے ہیں۔ اس وقت 947 students وہاں موجود ہیں۔ ہماری embassy ان سے رابطے میں ہے اور ہر طرح کی facilitation انہیں مہیا کی جا رہی ہے۔

جناب ڈپٹی سپیکر: انجم عقیل صاحب۔ Please ask one question.

جناب انجم عقیل خان: میری درخواست ہے کہ اس وقت بتایا جائے کہ total افغانستان میں کتنے پاکستانی students under education ہیں؟ اور ان میں سے اس وقت تقریباً 200 ہیں جو border پر پھنسے ہوئے ہیں، جو پاکستان آنا چاہتے ہیں، اور اکثر لوگ ایسے ہیں جن کے visas expire ہو چکے ہیں، وہ وہاں غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں۔ کیا Government of Pakistan، وزارت خارجہ نے افغانستان کے سفارت خانے کے ساتھ کوئی ایسا viable طریقہ کار طے کیا ہے جس کے ذریعے ایک تو ان کے passports renew کیے جا سکیں، visas renew کیے جا سکیں، اور دوسرا یہ کہ ان کے لیے کوئی one-time ایسی نرمی پیدا کی جائے تاکہ وہ لوگ واپس پاکستان اپنے گھروں میں آسکیں؟

جناب ڈپٹی سپیکر: طارق فضل چوہدری صاحب۔

جناب طارق فضل چوہدری: جناب سپیکر! جو total number of students اس وقت افغانستان میں موجود ہیں، ان کی تعداد 2050 ہے، اور ان میں سے زیادہ تر medical colleges میں ہیں، جن میں majority کابل میں ہے، اور دوسرے نمبر پر Jalalabad city ہے۔ وہاں یہ پاکستانی students موجود ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اکتوبر 2025 سے پہلے چونکہ پاک افغان border کھلا ہوا تھا، تو یہ بڑی تعداد میں students زمینی راستے سے پاکستان آتے جاتے تھے اور اپنی تعلیمی سرگرمیاں وہاں جاری رکھے ہوئے تھے۔ لیکن اکتوبر 2025 میں جو پاک افغان border پر کشیدگی ہوئی، اس کی بنیادی وجہ Afghan Taliban regime ہے، جس کی طرف سے پاکستانی چوکیوں پر firing کی گئی، attacks ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سرحدی علاقے، سابقہ FATA میں، افغانستان سے باقاعدہ دراندازی ہوئی، وہاں پر باقاعدہ تشکیلیں آتی ہیں۔ جو دہشت گرد ہیں اور پاکستان کے علاقے میں آکر وہ دہشت گردی کرتے ہیں، جس سے ہمارے civilians بھی شہید ہو رہے ہیں۔ ہماری law enforcing agencies کے جوان اور افسران بھی شہید ہوئے ہیں۔ ان کے خلاف کارروائیاں ان علاقوں میں جاری ہیں، اور اس کے بعد ہمارا Afghan Taliban regime کے ساتھ مذاکرات کا بھی ایک

round ہوتا ہے، جو قطر میں Doha میں اور اس کے بعد ترکیہ میں ہوا، لیکن وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتا۔ Afghan Taliban regime کے نمائندے وہاں پر، جیسا کہ کل ہمارے وزیر دفاع بھی بتا رہے تھے، اس بات کو مانتے ہیں کہ افغانستان سے دراندازی ہوتی ہے، لیکن وہ یہ assurance دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اس دراندازی کو روکا جائے گا، اور جو محفوظ پناہ گاہیں دہشت گردوں کی افغانستان کے اندر ہیں، انہیں ختم کیا جائے گا۔ یہ assurance تحریری طور پر دینے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔

جناب سپیکر! یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف وہاں سے دہشت گرد آرہے ہوں، بم آرہے ہوں، اور دوسری طرف ساتھ تجارت بھی ہو رہی ہو۔ دونوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے۔ لہذا وہاں پر ہمارا جو تجارتی route تھا border کے ذریعے، وہ بند کیا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں جن کی تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے، ان کو تھوڑی problem ضرور ہوئی، لیکن چونکہ فضائی راستہ کھلا ہے، لہذا اس وقت 1100 پاکستانی students پاکستان واپس آچکے ہیں، اور 947 students جو ہیں وہ ابھی وہاں موجود ہیں، Jalalabad میں اور Kabul میں۔ لیکن وہ اپنے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ border کے اوپر stranded ہیں یا پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے تعلیمی اداروں میں ہیں۔ ہماری embassy ان سے رابطے میں ہے، اور ان کے visas یا باقی کوئی بھی problem ہے، ہماری embassy، Pakistan Embassy Kabul، انہیں حل کر رہی ہے۔ شکر یہ۔

THE TRADE ORGANIZATIONS (THIRD AMENDMENT) BILL, 2026

جناب ڈپٹی سپیکر: Item No. 3: محمد فاروق ستار۔

جناب محمد فاروق ستار: شکر یہ جناب ڈپٹی سپیکر! ایک Trade Organization Act میں amendment کا Bill ہے۔

I move for leave to introduce a Bill further to amend the Trade Organizations Act, 2013 (II of 2013) [The Trade Organizations (Third Amendment) Bill, 2026].

مجھے اس ضمن میں یہ بھی کہنا ہے کہ جو last amendment ہوئی تھی Trade Organizations Act میں اس میں شہروں کی اہمیت، جو کہ urban settlement ہوتی ہے، اور عموماً یہی شہر ترقی کے engines ہوتے ہیں، معیشت کے مرکز اور economy کے hubs ہوتے ہیں، ان کی جگہ districts کو shift کر دیا گیا اور district کی بنیاد پر اگر chambers بنتے ہیں، جو نمائندہ ایوان بنتے ہیں مختلف اضلاع میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نمائندگی اتنی مؤثر نہیں ہوتی جتنی ایک شہر کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اور پھر اگر ہم Karachi شہر کی بات کریں، جہاں انتظامی بنیادوں پر اب تک سات اضلاع بن گئے ہیں، تو یہ جو last amendment ہوئی تھی، اس میں اس بات کو سامنے نہیں رکھا گیا۔ Karachi Chamber of Commerce & Industries سے بھی discuss نہیں کیا گیا تھا۔ اور یہ amendment ہوگئی اور شہر کی جگہ district کا لفظ آگیا اور district کی وجہ سے اب chambers 7 اگر وہاں بنتے ہیں جو کہ ایک کراچی بین الاقوامی شہر ہے۔ آپ کی معیشت، محاصل، ٹیکس اور revenue کے اعتبار سے وہاں 60 سے 65 فیصد آپ کو revenue ملتا ہے۔

آپ کی export 50 percent اب بھی کراچی کے مرہون منت ہے۔ پھر کراچی شہر کی صرف مالی اور معاشی اہمیت نہیں ہے بلکہ جو demography ہے، جو وہاں کی ethnic mix ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی ہر زبان بولنے والا اب آپ کو کراچی میں ملے گا، ہر علاقے کا پاکستانی آپ کو کراچی میں ملے گا۔ اسی لیے کراچی کو mini Pakistan کہتے ہیں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کراچی ہی پاکستان ہے۔ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک نمائندہ چیمبر ہونا چاہیے جو کہ Karachi Chamber of Commerce & Industry ہے اور اگر یہ chamber سات ضلعوں میں تقسیم ہوگا، ابھی implementation نہیں ہوا ہے۔ تو یہ جو آخری ترمیم میں غلطی ہوئی تھی اس کو rectify کرنا ہے اور میرے خیال میں، میرے جو یہاں ساتھی بیٹھے ہیں، پیپلز پارٹی کے انہیں بھی میرے خیال میں ان کی طرف سے بھی اس بات کی تائید ہے کہ ایک chamber ہونا چاہیے کیونکہ پورے سندھ کو بھی اگر مکمل طور پر کوئی chamber represent کرتا ہے تو وہ KCCI ہی ہے۔ تو KCCI کی اہمیت کو برقرار رکھا جائے اور اس Bill کو متعارف کرنے کی مجھے اجازت دی جائے۔ بہت شکریہ۔

Mr. Deputy Speaker: Thank you. Minister of Law.

وزیر برائے قانون و انصاف و انسانی حقوق (سینیٹر اعظم نذیر تارڑ): سر! Committee کو refer کر دیا جائے۔ ایک تجویز ہے، یہ situation آئی تھی چند ماہ پہلے Bar Council کے Act میں بھی، کیونکہ کراچی مختلف اضلاع میں تقسیم ہے اور Bar Association Karachi کے KBA ایک ہی ہے۔ تو Bar Council کی seats کے حوالے سے وہاں پہ ہم نے exception create کر دی تھی Only for Karachi. باقی سارے ملک میں میرے خیال میں ضلعوں پہ ہی رہنا چاہیے اور وہ آپ exception create کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں Committee میں بیٹھ کے طے کر لیں۔

Mr. Deputy Speaker: Now, I put the Motion to the House. The question is that the leave to introduce a Bill further to amend the Trade Organizations Act, 2013 (II of 2013) [The Trade Organizations (Third Amendment) Bill, 2026], be granted.

(The Leave was granted.)

Mr. Deputy Speaker: Item No. 4. Farooq Sattar Sahib.

Mr. Muhammad Farooq Sattar: Now, I introduce a Bill further to amend the Trade Organizations Act, 2013 (II of 2013) [The Trade Organizations (Third Amendment) Bill, 2026].

Mr. Deputy Speaker: The Bill in question stands introduced.

(The Bill was introduced.)

جناب ڈپٹی سپیکر: جو Minister Law نے ابھی کہا ہے کہ یہ کمیٹی کو بھیج دیں۔ تو ہم اس کو کمیٹی کو بھیجتے ہیں، deliberation

کر لیں۔

THE PROHIBITION OF MANUAL SCAVENGING AND PROTECTION OF SANITATION WORKERS (ICT) BILL, 2026

جناب ڈپٹی سپیکر: آئٹم نمبر 5۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ۔

Dr. Sharmila Faruqui: Sir, I to move for leave to introduce a Bill to prohibit all forms of manual sewer entry within the Islamabad Capital Territory, to mandate mechanised sewer-cleaning systems, and to ensure the safety, protection and rehabilitation of sanitation workers; and for matters connected therewith and incidental thereto [The Prohibition of Manual Scavenging and Protection of Sanitation Workers (ICT) Bill, 2026].

Mr. Deputy Speaker: Tariq Fazal Chaudhary Sahib do you oppose it?

جناب طارق فضل چوہدری: سر! گزارش یہ ہے کہ انہوں نے Islamabad Capital Territory کے حوالے سے جو Bill introduce کیا ہے۔ مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کمیٹی کو ضرور یہ refer کریں۔ وہاں بیٹھ کے ذرا اس پہ-detailed delibe-ration ہو جائے گی۔

لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سر! اسلام آباد میں Solid Waste Management کے حوالے سے مکمل ایک mechanism موجود ہے اور already یہ چیزیں اس میں incorporated ہیں۔ Prime Minister Sahib کی direction پہ ہمارا جو CDA کا department ہے اور اس کے ساتھ جو Metropolitan Corporation Islamabad ہے، وہ اسلام آباد کے city area میں، rural area میں، Solid Waste کے حوالے سے بڑا ایک comprehensive plan جو لے کے چل رہے ہیں۔

ہمارا جو اسلام آباد کا city area ہے اس میں تو وہ hundred percent اس وقت نافذ العمل ہے۔ اسلام آباد کے rural area میں جو major areas وہاں پہ کام ہو رہا ہے، کچھ areas میں کام کرنے کی گنجائش ابھی موجود ہے۔ لیکن یہ already وہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ لیکن اگر honourable Member چاہتے ہیں تو اسے کمیٹی بھجوادیں، وہاں بیٹھ کے آرام سے اس کو deliberate کر لیں گے سر۔

Mr. Deputy Speaker: Ok. Now, I put the Motion to the House. The question is that the leave to introduce a Bill to prohibit all forms of manual sewer entry within the Islamabad Capital Territory, to mandate mechanised sewer-cleaning systems, and to ensure the safety, protection and rehabilitation of sanitation workers; and for matters connected therewith and incidental thereto [The

Prohibition of Manual Scavenging and Protection of Sanitation Workers (ICT) Bill, 2026], be granted.

(The Leave was granted.)

جناب ڈپٹی سپیکر: یہ بھی کمیٹی کو بھیج دیتے ہیں۔ شرمیلا صاحبہ اس کو introduce کر دیں۔

Dr. Sharmila Faruqi: Sir, I move to introduce a Bill to prohibit all forms of manual sewer entry within the Islamabad Capital Territory, to mandate mechanised sewer-cleaning systems, and to ensure the safety, protection and rehabilitation of sanitation workers; and for matters connected therewith and incidental thereto [The Prohibition of Manual Scavenging and Protection of Sanitation Workers (ICT) Bill, 2026].

Mr. Deputy Speaker: The Bill in question stands introduced.

(The Bill was introduced.)

THE RAILWAY CONNECTIVITY AND MODERNISATION BILL, 2026

Mr. Deputy Speaker: Item No. 7. Shahida Rehmani Sahiba.

Ms. Shahida Rehmani: Thank you Mr. Speaker. I move for leave to introduce a Bill to provide for the modernization of freight and passenger rail services to and from the ports, enhancement of trade connectivity and to ensure safety and efficiency in railway operations [The Railway Connectivity and Modernisation Bill, 2026].

جناب ڈپٹی سپیکر: جی منسٹر صاحب۔ Bilal Azhar Kayani Sahib do you oppose it? جی یہاں پہ کھول دیں جہاں

پہ بلال کیانی صاحب بیٹھے ہیں۔

وزیر مملکت برائے ریلویز و خزانہ و محاصل (جناب بلال اظہر کیانی): شکر یہ جناب ڈپٹی سپیکر۔ نہیں، I do not oppose it، آپ

کمیٹی کو بھیج دیجیے، وہی پر پھر ان شاء اللہ معاملے کو discuss کر لیں گے۔ بہت شکر یہ۔

Mr. Deputy Speaker: Not opposed? Ok. Now, I put the Motion to the House. The question is that the leave to introduce a Bill to provide for the modernization of freight and passenger rail services to and from the ports, enhancement of trade connectivity and to ensure safety and efficiency in railway operations [The Railway Connectivity and Modernisation Bill, 2026], be granted.

(The Leave was granted.)

جناب ڈپٹی سپیکر: یہ بھی کمیٹی کو بھیجے ہیں۔ اسٹم نمبر 8، شاہدہ رحمانی صاحبہ۔

Ms. Shahida Rehmani: I move that the leave to introduce a Bill to provide for the modernization of freight and passenger rail services to and from the ports, enhancement of trade connectivity and to ensure safety and efficiency in railway operations [The Railway Connectivity and Modernisation Bill, 2026].

Mr. Deputy Speaker: The Bill in question stands introduced.

(The Bill was introduced.)

THE UNIVERSITY OF STRATEGIC KNOWLEDGE BILL, 2026

Mr. Deputy Speaker: Item No. 9. Salahuddin Junejo Sahib.

Mr. Salahuddin Junejo: I move for leave to introduce a Bill for the establishment of the University of Strategic Knowledge [The University of Strategic Knowledge Bill, 2026].

Mr. Deputy Speaker: Minister for Education, who will respond it? Please open the mic of Wajiha Qamar Sahiba.

وزیر مملکت برائے وفاقی تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت (محترمہ وجیہہ قمر): جی، سپیکر صاحب this is not supported کیونکہ اس

کے اندر کوئی procedures ابھی تک follow نہیں کیے گئے اور جب تک HEC کے پاس یہ نہیں جاتا ہے تو اس کے بعد ہی ہم اس کو دیکھ سکتے

ہیں۔ ابھی تک Not supported.

جناب ڈپٹی سپیکر: جی، House کی attention چاہیے because اس پہ voting ہوگی اور اس کے مطابق ہی عمل ہوگا۔

Mr. Deputy Speaker: Now, I put the Motion to the House. The question is that the leave to introduce a Bill for the establishment of the University of Strategic Knowledge [The University of Strategic Knowledge Bill, 2026] be granted.

(The Leave was not granted.)

جناب ڈپٹی سپیکر: Item No. 17 رانا محمد قاسم نون صاحب۔ نون صاحب ہیں؟ اس کو defer کرتے ہیں۔

MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT

جناب ڈپٹی سپیکر: Item No. 18 راجہ خرم شہزاد نواز صاحب۔ اگر کوئی ممبر صاحب موجود ہیں تو ان سے move کرا لیتے ہیں۔

Interior کے کوئی ممبر ادھر ہیں؟ قادر ٹیل صاحب کا mic کھولیں۔

Mr. Abdul Qadir Patel: Thank you Mr. Speaker! On behalf of Raja Khurram Shahzad Nawaz, Chairman Standing Committee on Interior and Narcotics Control,

I move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1898 [The Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2024] (schedule-II), till today be condoned. (Moved by Dr. Sharmila Faruqui, MNA)

Mr. Deputy Speaker: Now, I put the Motion to the House. It has been moved that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1898 [The Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2024] (schedule-II), till today be condoned.

(The Motion was adopted.)

REPORT ON THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL, 2024
(SCHEDULE – II)

Mr. Deputy Speaker: Item No. 19. Abdul Qadir Patel Sahib please move Item No. 19.

Mr. Abdul Qadir Patel: Thank you Mr. Speaker! On behalf of Raja Khurram Shahzad Nawaz, Chairman Standing Committee on Interior and Narcotics Control, I present the report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1898 [The Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2024] (schedule-II).

Mr. Deputy Speaker: The report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1898 [The Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2024] stands presented.

MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT

Mr. Deputy Speaker: Item No. 20. Abdul Qadir Patel Sahib please move Item No. 20.

Mr. Abdul Qadir Patel: Thank you Mr. Speaker! On behalf of Raja Khurram Shahzad Nawaz, Chairman Standing Committee on Interior and Narcotics Control, I move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Pakistan Penal Code, 1860 (XLV of 1860) and the Code of Criminal Procedure, 1898 (V of 1898) [The Criminal Laws (Amendment) Bill, 2024] (section 498AA), till today be condoned. (Moved by Ms. Sofia Saeed Shah, MNA)

Mr. Deputy Speaker: Now, I put the Motion to the House. It has been moved that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Pakistan Penal Code, 1860 (XLV of 1860) and the Code of Criminal Procedure, 1898 (V of 1898) [The Criminal Laws (Amendment) Bill, 2024] (section 498AA), till today be condoned.

(The Motion was adopted.)

REPORT ON THE CRIMINAL LAW (AMENDMENT) BILL, 2024 (SECTION 498AA)

Mr. Deputy Speaker: Item No. 21. Abdul Qadir Patel Sahib please move Item No. 21.

Mr. Abdul Qadir Patel: Thank you Mr. Speaker! On behalf of Raja Khurram Shahzad Nawaz, Chairman Standing Committee on Interior and Narcotics Control, I present the report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Pakistan Penal Code, 1860 (XLV of 1860) and the Code of Criminal Procedure, 1898 (V of 1898) [The Criminal Law (Amendment) Bill, 2024] (section 498AA).

Mr. Deputy Speaker: The report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Pakistan Penal Code, 1860 (XLV of 1860) and the Code of Criminal Procedure, 1898 (V of 1898) [The Criminal Law (Amendment) Bill, 2024] (section 498AA) stands presented.

MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT

جناب ڈپٹی سپیکر: Item No. 22: ابرار احمد صاحب۔ ابرار صاحب ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو کوئی کیبنٹ کمیٹی کے ممبر ہیں تو ان سے move کروالیں۔ نزہت صادق صاحبہ آپ اس کو move کر دیں گی؟ نزہت صاحبہ کا mic کھولیں۔

Ms. Nuzhat Sadiq: Thank you Mr. Speaker! On behalf of Mr. Ibrar Ahmad, Chairman Standing Committee on Cabinet Secretariat, I move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Civil Servants Act, 1973 [The Civil Servants (Amendment) Bill, 2025] (section 14), till today be condoned. (Moved by Mr. Usama Ahmed Mela, MNA)

Mr. Deputy Speaker: Now, I put the Motion to the House. It has been moved that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Civil Servants Act, 1973 [The Civil Servants (Amendment) Bill, 2025] (section 14), till today be condoned.

(The Motion was adopted.)

REPORT ON THE CIVIL SERVANTS (AMENDMENT) BILL, 2025

جناب ڈپٹی سپیکر: نزہت صاحبہ Item No. 23 move کریں۔

محترمہ نزہت صادق: ابرار صاحب آگئے ہیں۔

Mr. Deputy Speaker: Item No. 23. Ibrar Ahmad Sahib please move Item No. 23.

جناب ابرار احمد: جناب سپیکر! شکریہ۔ میں، چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے کابینہ سیکرٹریٹ سول ملازمین ایکٹ 1973 میں مزید ترمیم کرنے کا بل [سول ملازمین (ترمیمی) بل، 2025] (دفعہ 14) پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرتا ہوں۔

Mr. Deputy Speaker: The report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Civil Servants Act, 1973 [The Civil Servants (Amendment) Bill, 2025] stands presented.

MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT

Mr. Deputy Speaker: Item No. 24. Ibrar Ahmad Sahib please move Item No. 24.

جناب ابرار احمد: میں، چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے کابینہ سیکرٹریٹ تحریک پیش کرتا ہوں کہ سول ملازمین ایکٹ 1973 میں مزید ترمیم کرنے کا بل [سول ملازمین (ترمیمی) بل، 2026] (دفعہ 14) پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے میں آج تک کی تاخیر سے صرف نظر کی جائے۔

Mr. Deputy Speaker: Now, I put the Motion to the House. It has been moved that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Civil Servants Act, 1973 [The Civil Servants (Amendment) Bill, 2024] (section 14), till today be condoned. (Moved by Sahibzada Sibghatullah, MNA)

(The Motion was adopted.)

REPORT ON THE CIVIL SERVANTS (AMENDMENT) BILL, 2024

Mr. Deputy Speaker: Item No. 25. Ibrar Ahmad Sahib please move Item No. 25.

جناب ابرار احمد: شکریہ۔ میں، چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے کابینہ سیکرٹریٹ سول ملازمین ایکٹ 1973 میں مزید ترمیم کرنے کا بل [سول ملازمین (ترمیمی) بل، 2026] (دفعہ 14) پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرتا ہوں۔

Mr. Deputy Speaker: The report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Civil Servants Act, 1973 [The Civil Servants (Amendment) Bill, 2024] (section 14) stands presented.

MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT

Mr. Deputy Speaker: Item No. 26. Ibrar Ahmad Sahib please move Item No. 26.

جناب ابرار احمد: میں، چیئر مین قائمہ کمیٹی برائے کابینہ سیکرٹریٹ تحریک پیش کرتا ہوں کہ سروس ٹریبونلز ایکٹ 1973 میں مزید ترمیم کرنے کا بل [سروس ٹریبونلز (ترمیمی) بل، 2025] پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے میں آج تک کی تاخیر سے صرف نظر کی جائے۔

Mr. Deputy Speaker: Now, I put the Motion to the House. It has been moved that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Service Tribunals Act, 1973 [The Service Tribunals (Amendment) Bill, 2025], till today be condoned.

(The Motion was adopted.)

REPORT ON THE SERVICE TRIBUNALS (AMENDMENT) BILL, 2025

- جناب ڈپٹی سپیکر: ابرار احمد صاحب Item No.27

جناب ابرار احمد: چیئر مین قائمہ کمیٹی برائے کابینہ سیکرٹریٹ سروس ٹریبونلز ایکٹ 1973 میں مزید ترمیم کرنے کا بل [سروس ٹریبونلز (ترمیمی) بل، 2025] پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرتا ہوں۔

Mr. Deputy Speaker: The report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Service Tribunals Act, 1973 [The Service Tribunals (Amendment) Bill, 2025], stands presented.

MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT

Mr. Deputy Speaker: Item No.28. Standing Committee on Human Rights جی زہرہ

وود صاحبہ کا مائیک کھولیں۔

Ms. Zahra Wadood Fatemi: I, on behalf of Chairman Standing Committee on Human Rights move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the Bill further to amend the National Commission on the Rights of Child Act, 2017 [The National Commission on the Rights of Child (Amendment) Bill, 2025], till today be condoned.

Mr. Deputy Speaker: Now, I put the Motion to the House. It has been moved that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the Bill further to amend the National Commission on the Rights of Child Act, 2017 [The National Commission on the Rights of Child (Amendment) Bill, 2025], till today be condoned.

(The Motion was adopted.)

**REPORT ON THE NATIONAL COMMISSION ON THE RIGHTS OF CHILD
(AMENDMENT) BILL, 2025**

جناب ڈپٹی سپیکر: زہرا وود صاحبہ، Item No.29 اڑھیں۔

Ms. Zahra Wadood Fatemi: I, on behalf of Chairman Standing Committee on Human Rights to present the report of the Standing Committee on the Bill further to amend the National Commission on the Rights of Child Act, 2017 [The National Commission on the Rights of Child (Amendment) Bill, 2025].

Mr. Deputy Speaker: The report of the Standing Committee on the Bill further to amend the National Commission on the Rights of Child Act, 2017 [The National Commission on the Rights of Child (Amendment) Bill, 2025], stands introduced.

MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT

Mr. Deputy Speaker: Item No.30, Zahra Wadood Sahiba.

Ms. Zahra Wadood Fatemi: I, on behalf of Chairman Standing Committee on Human Rights to move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Child Marriage Restraint Act, 1929 (XIX of 1929) [The Child Marriage Restraint (Amendment) Bill, 2024], till today be condoned.

Mr. Deputy Speaker: Now, I put the Motion to the House. It has been moved that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Child Marriage Restraint Act, 1929 (XIX of 1929) [The Child Marriage Restraint (Amendment) Bill, 2024], till today be condoned.

(The Motion was adopted.)

REPORT ON THE CHILD MARRIAGE RESTRAINT (AMENDMENT) BILL, 2024

Mr. Deputy Speaker: Item No.31, Zahra Wadood Sahiba.

Ms. Zahra Wadood Fatemi: I, on behalf of Chairman Standing Committee on Human Rights to present the report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Child Marriage Restraint Act, 1929 (XIX of 1929) [The Child Marriage Restraint (Amendment) Bill, 2024].

Mr. Deputy Speaker: The report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Child Marriage Restraint Act, 1929 (XIX of 1929) [The Child Marriage Restraint (Amendment) Bill, 2024], stands presented.

MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT

Mr. Deputy Speaker: Item No.32, Zahra Wadood Sahiba.

Ms. Zahra Wadood Fatemi: I, on behalf of Chairman Standing Committee on Human Rights to move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the Bill further to amend the National Commission on the Rights of Child Act, 2017 [The National Commission on the Rights of Child (Amendment) Bill, 2024], till today be condoned.

Mr. Deputy Speaker: Now, I put the Motion to the House. It has been moved that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the Bill further to amend the National Commission on the Rights of Child Act, 2017 [The National Commission on the Rights of Child (Amendment) Bill, 2024], till today be condoned.

(The Motion was adopted.)

**REPORT ON THE NATIONAL COMMISSION ON THE RIGHTS OF CHILD
(AMENDMENT) BILL, 2024**

Mr. Deputy Speaker: Item No.33, Zahra Wadood Sahiba.

Ms. Zahra Wadood Fatemi: I, on behalf of Chairman Standing Committee on Human Rights to present the report of the Standing Committee on the Bill further to amend the National Commission on the Rights of Child Act, 2017 [The National Commission on the Rights of Child (Amendment) Bill, 2024].

Mr. Deputy Speaker: The report of the Standing Committee on the Bill further to amend the National Commission on the Rights of Child Act, 2017 [The National Commission on the Rights of Child (Amendment) Bill, 2024], stands presented.

MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT

جناب ڈپٹی سپیکر: Item No.34، راجہ خرم شہزاد نواز صاحب ہیں۔ ٹیل صاحب انٹیرنیر کے اگر کوئی ممبر صاحب بیٹھے ہیں تو وہ اس کو move کر دیں۔ قادر ٹیل صاحب ہیں، نہیں ہیں، اور کوئی ہے House میں انٹیرنیر کے۔ شہباز بابر صاحب کامائیک کھولیں۔
چوہدری محمد شہباز بابر: جناب نمبر بتادیں گے سر۔
جناب ڈپٹی سپیکر: Item No.34 move کریں۔

Ch. Muhammad Shahbaz Babar: I, on behalf of Chairman Standing Committee on Interior and Narcotics Control to move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the Bill to provide and punish corrosive substances assault crimes, provides support and protection to victims and ensure justice and accountability in the Islamabad Capital Territory [The Corrosive Substances Assault (Prevention and Protection) Bill, 2024], till today be condoned.

Mr. Deputy Speaker: Now, I put the Motion to the House. The question is that the Motion, as moved, be adopted.

(The Motion was adopted.)

REPORT ON THE CORROSIVE SUBSTANCES ASSAULT (PREVENTION AND PROTECTION) BILL, 2024

جناب ڈپٹی سپیکر: Item No.35، اس کو بھی پڑھیں۔

Ch. Muhammad Shahbaz Babar: I, on behalf of Chairman Standing Committee on Interior and Narcotics Control to present the report of the Standing Committee on the Bill to provide and punish corrosive substances assault crimes, provides support and protection to victims and ensure justice and accountability in the Islamabad Capital Territory [The Corrosive Substances Assault (Prevention and Protection) Bill, 2024].

Mr. Deputy Speaker: The said report stands presented.

MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT

جناب ڈپٹی سپیکر: Item No.36، Chairman Standing Committee on Science and Technology

Technology. اگر چیئر مین صاحب نہیں ہیں تو کوئی اس کمیٹی کا ممبر موجود ہے؟ نکہت صاحبہ کامائیک کھولیں۔

Parliamentary Secretary for Science and Technology (Dr. Nikhat Shakeel Khan): I, on behalf of Chairman Standing Committee on Science and Technology to

move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the Bill to repeal the Pakistan General Cosmetics Act, 2023 [The Pakistan General Cosmetics (Repeal) Bill, 2025], till today be condoned.

Mr. Deputy Speaker: Now, I put the Motion to the House. It has been moved that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the Bill to repeal the Pakistan General Cosmetics Act, 2023 [The Pakistan General Cosmetics (Repeal) Bill, 2025], till today be condoned.

(The Motion was adopted.)

REPORT ON THE PAKISTAN GENERAL COSMETICS (REPEAL) BILL, 2025

Mr. Deputy Speaker: Dr. Nikhat Shakeel Khan to move Item No. 37.

Dr. Nikhat Shakeel Khan: I, on behalf of Chairman Standing Committee on Science and Technology, present the report of the Standing Committee on the Bill to repeal the Pakistan General Cosmetics Act, 2023 [The Pakistan General Cosmetics (Repeal) Bill, 2025].

جناب ڈپٹی سپیکر: جی منسٹر آف لاء کماٹیک کھولیں۔

سینیٹر اعظم نذیر تارڑ: اس لاء کی repeal کی حد تک، یہ پرائیویٹ ممبر بل میں آیا ہے اس پر ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے ministerial

committee اس کو ابھی۔ I am heading that committee. We are filing the report. کیا جائے یہ سنجیدہ

معاملہ ہے۔ ابھی اس کو pend کر دیں۔ ابھی صرف report lay ہوتی ہے۔

جناب ڈپٹی سپیکر: رپورٹ تو lay ہو رہی ہے ناں۔

سینیٹر اعظم نذیر تارڑ: ٹھیک ہے اس حد تک کیونکہ اس پر already matter was taken up by the Cabinet اور

اس پر انہوں نے کمیٹی بنادی ہے ministerial committee three Members ابھی ٹھیک ہے رپورٹ lay ہو جائے لیکن اس کا

final combination سے پہلے گورنمنٹ کا view point آجائے گا۔

Mr. Deputy Speaker: The report of the Standing Committee on the Bill to repeal the Pakistan General Cosmetics Act, 2023 [The Pakistan General Cosmetics (Repeal) Bill, 2025], stands presented.

MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT

Mr. Deputy Speaker: Syed Agha Rafiullah Chairman Standing Committee on Overseas to move Item No. 38.

سید رفیع اللہ: شکریہ، جناب سپیکر! میں، چیئر مین قائمہ کمیٹی برائے سمندر پار پاکستانی و ترقی انسانی وسائل تحریک پیش کرتا ہوں کہ صنعتی تعلقات ایکٹ، 2012 میں مزید ترمیم کرنے کا بل [صنعتی تعلقات (ترمیمی) بل، 2025] پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے میں آج تک تاخیر سے صرف نظر کی جائے۔

Mr. Deputy Speaker: Now, I put the Motion to the House. It has been moved that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Industrial Relations Act, 2012 [The Industrial Relations (Amendment) Bill, 2025], till today be condoned. (Moved by Ms. Shahida Rehmani, MNA).

(The Motion was adopted.)

REPORT ON THE INDUSTRIAL RELATIONS (AMENDMENT) BILL, 2025

Mr. Deputy Speaker: Syed Agha Rafiullah to move Item No. 39.

سید رفیع اللہ: شکریہ، جناب سپیکر! میں چیئر مین قائمہ کمیٹی برائے سمندر پار پاکستانی و ترقی انسانی وسائل تحریک پیش کرتا ہوں کہ صنعتی تعلقات ایکٹ، 2012 میں مزید ترمیم کرنے کا بل [صنعتی تعلقات (ترمیمی) بل، 2025] پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرتا ہوں۔

Mr. Deputy Speaker: The said report stands presented.

MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT

جناب ڈپٹی سپیکر: آئٹم نمبر 40۔ Chairman Standing Committee on Religious Affairs عامر ڈوگر

صاحب ہیں؟ مذہبی امور کے کوئی اور ممبر ہیں؟ آسیہ ناز تنولی صاحبہ آپ move کر دیں۔

Ms. Asiya Naz Tanoli: Thank you Mr. Deputy Speaker. I, on behalf of Chairman Standing Committee on Religious Affairs, move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the Bill to establish a National Commission for Minorities Rights [The National Commission for Minorities' Rights Bill, 2025], till today be condoned. (Moved by Mr. Naveed Aamir, MNA).

Mr. Deputy Speaker: Now, I put the Motion to the House. It has been moved that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the Bill to establish a National Commission for Minorities Rights [The National Commission for Minorities' Rights Bill, 2025], till today be condoned. (Moved by Mr. Naveed Aamir, MNA).

(The Motion was adopted.)

REPORT ON THE NATIONAL COMMISSION FOR MINORITIES' RIGHTS BILL, 2025

Mr. Deputy Speaker: Asiya Naz Tanoli Sahiba to move Item No. 41.

Ms. Asiya Naz Tanoli: I, on behalf of Chairman Standing Committee on Religious Affairs, present the report of the Standing Committee on the Bill to establish a National Commission for Minorities Rights [The National Commission for Minorities' Rights Bill, 2025].

Mr. Deputy Speaker: The said report stands presented.

MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT

Mr. Deputy Speaker: Raja Khurram Shahzad Nawaz, Chairman Standing Committee on Interior to move Item No. 42. Shehbaz Sahib۔ کامائیک کھولیں۔

Ch. Muhammad Shahbaz Babar: I, on behalf of the Chairman Standing Committee on Interior and Narcotics Control, move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the Bill to prohibit the giving, taking or demanding dowry [The Islamabad Capital Dowry Restraint Bill, 2025], till today be condoned. (Moved by Dr. Sharmila Faruqi, MNA).

Mr. Deputy Speaker: Now, I put the Motion to the House. It has been moved that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the Bill to prohibit the giving, taking or demanding dowry [The Islamabad Capital Dowry Restraint Bill, 2025], till today be condoned.

(The Motion was adopted.)

REPORT ON THE ISLAMABAD CAPITAL DOWRY RESTRAINT BILL, 2025

جناب ڈپٹی سپیکر: آئٹم نمبر 43۔ راجہ خرم شہزاد صاحب۔ ممبر موجود نہیں۔ اس کو بھی شہباز بابر صاحب move کریں۔

Ch. Muhammad Shahbaz Babar: I, on behalf of the Chairman Standing Committee on Interior and Narcotics Control, present the report of the Standing Committee on the Bill to prohibit the giving, taking or demanding dowry [The Islamabad Capital Dowry Restraint Bill, 2025].

Mr. Deputy Speaker: The said report stands presented.

(اذان ظہر)

ANNOUNCEMENT REG: PRESENCE OF A GROUP OF THE STUDENTS AND FACULTY MEMBERS FROM THE CITY SCHOOL LAHORE IN THE GALLERY

Mr. Deputy Speaker: May I have the attention of the House? The honourable Members are informed that the students and faculty Members from the City School Lahore are sitting in the Visitors' Gallery. We welcome them.

MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT

جناب ڈپٹی سپیکر: آئٹم نمبر 44۔ شہباز صاحب آپ پڑھیں۔

Ch. Muhammad Shahbaz Babar: I, on behalf of the Chairman Standing Committee on Interior and Narcotics Control, move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Islamabad (Preservation and Landscape) Ordinance, 1996, [The Islamabad (Preservation of Landscape) (Amendment) Bill, 2025], till today be condoned. (Moved by Ms. Shahida Rehmani, MNA).

Mr. Deputy Speaker: Now, I put the Motion to the House. It has been moved the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Islamabad (Preservation and Landscape) Ordinance, 1996, [The Islamabad (Preservation of Landscape) (Amendment) Bill, 2025], till today be condoned.

(The Motion was adopted.)

REPORT ON THE ISLAMABAD (PRESERVATION OF LANDSCAPE) (AMENDMENT) BILL, 2025

جناب ڈپٹی سپیکر: آئٹم نمبر 45۔ شہباز صاحب۔

Ch. Muhammad Shahbaz Babar: I, on behalf of the Chairman Standing Committee on Interior and Narcotics Control, present the report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Islamabad (Preservation and Landscape) Ordinance, 1996, [The Islamabad (Preservation of Landscape) (Amendment) Bill, 2025].

Mr. Deputy Speaker: The said report stands presented.

MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT

Mr. Deputy Speaker: Shahbaz Babar Sahib to move Item No. 46.

Ch. Muhammad Shahbaz Babar: I, on behalf of the Chairman Standing Committee on Interior and Narcotics Control, move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Pakistan Penal Code, 1860 (XLV of 1860) and the Code of Criminal Procedure, 1898 (V of 1898) [The Criminal Law (Amendment) Bill, 2025], till today be condoned. (Moved by Khawaja Izhar ul Hassan, MNA).

Mr. Deputy Speaker: Now, I put the Motion to the House. It has been moved the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Pakistan Penal Code, 1860 (XLV of 1860) and the Code of Criminal Procedure, 1898 (V of 1898) [The Criminal Law (Amendment) Bill, 2025], till today be condoned.

(The Motion was adopted.)

REPORT ON THE CRIMINAL LAW (AMENDMENT) BILL, 2025

Mr. Deputy Speaker: Shahbaz Babar Sahib to move Item No. 47.

Ch. Muhammad Shahbaz Babar: I, on behalf of the Chairman Standing Committee on Interior and Narcotics Control, present the report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Pakistan Penal Code, 1860 (XLV of 1860) and the Code of Criminal Procedure, 1898 (V of 1898) [The Criminal Law (Amendment) Bill, 2025].

Mr. Deputy Speaker: The said report stands presented.

MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT

Mr. Deputy Speaker. Item No. 48. Ch. Muhammad Shahbaz Babar Sahib.

Ch. Muhammad Shahbaz Babar: I, on behalf of Chairman Standing Committee on Interior and Narcotics Control, move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on Starred Question No. 146 referred to the Committee on 25th October, 2024, till today be condoned.

Mr. Deputy Speaker: Now, I put the Motion to the House. The question is that the Motion, as moved, be adopted.

(The Motion was adopted.)

REPORT ON THE STARRED QUESTION NO. 146 REFERRED TO THE COMMITTEE ON 25TH OCTOBER, 2024

Mr. Deputy Speaker. Item No. 49. Ch. Muhammad Shahbaz Babar Sahib.

Ch. Muhammad Shahbaz Babar: I, on behalf of Chairman Standing Committee on Interior and Narcotics Control, have the honour to present this report on Starred Question No. 146 referred to the Committee on 25th October, 2024.

Mr. Deputy Speaker: The report stands presented.

MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT

Mr. Deputy Speaker: Item No. 50. Ch. Muhammad Shahbaz Babar Sahib.

Ch. Muhammad Shahbaz Babar: I, on behalf Chairman Standing Committee on Interior and Narcotics Control, move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on Starred Question No. 148 referred to the Committee on 25th October, 2024, till today be condoned.

Mr. Deputy Speaker: Now, I put the Motion to the House. The question is that the Motion, as moved, be adopted.

(The Motion was adopted.)

REPORT ON THE STARRED QUESTION NO. 148 REFERRED TO THE COMMITTEE ON 25TH OCTOBER, 2024

Mr. Deputy Speaker. Item No. 51. Ch. Muhammad Shahbaz Babar Sahib.

Ch. Muhammad Shahbaz Babar: I, on behalf of Chairman Standing Committee on Interior and Narcotics Control, present this report on Starred Question No. 148 referred to the Committee on 25th October, 2024.

Mr. Deputy Speaker: The report stands presented.

جناب ڈپٹی سپیکر: آئٹم نمبر 52، فتح اللہ خان صاحب موجود ہیں؟ ڈیفنس کے کوئی بھی بیٹھے ہیں تو وہ move کر دیں، اگر اندر ہیں تو ان کو بلا لیں، اگر اور کوئی ممبر ہیں تو move کر دیں ورنہ defer کر دیتے ہیں، مہرین بھٹو صاحبہ آپ ڈیفنس کمیٹی کی ممبر ہیں؟ ملک ابرار صاحب بھی نہیں

ہیں، Item No. 52 is deferred.

MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT

جناب ڈپٹی سپیکر: آئٹم نمبر 54، محمد افضل صاحب موجود ہیں؟ شہباز صاحب ممبر ہیں آپ privilege committee کے؟

Ch. Muhammad Shahbaz Babar: I, on behalf of Chairman Standing Committee on Rules of Procedure and Privileges, move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the amendment in Rule 119

of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly, 2007, (moved by Syed Naveed Qamar, MNA) referred to the Committee on 10.09.2024, till today be condoned.

Mr. Deputy Speaker: Now, I put the Motion to the House. The question is that the Motion, as moved, be adopted.

(The Motion was adopted.)

REPORT ON THE AMENDMENT IN RULE 119 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN THE NATIONAL ASSEMBLY, 2007

Mr. Deputy Speaker. Item No. 55. Ch. Muhammad Shahbaz Babar Sahib.

Ch. Muhammad Shahbaz Babar: I, on behalf of Standing Committee on Rules of Procedure and Privileges, present the report of the Standing Committee on the amendment in Rule 119 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly, 2007.

Mr. Deputy Speaker: The report stands presented.

MOTION FOR REFERRAL OF THE INTERNATIONAL EXAMINATION BOARD BILL, 2025, TO THE JOINT SITTING FOR PASSAGE, AS PASSED BY THE NATIONAL ASSEMBLY AND NOT PASSED BY THE SENATE WITHIN 90 DAYS

جناب ڈپٹی سپیکر: آئٹم نمبر 17 رہ گیا تھا، کون move کرے گا؟ رانا قاسم نون صاحب 17 Item No. ہے، اس وقت آپ موجود

نہیں تھے تو ہم نے defer کیا تھا، اب اس کو آپ پڑھ دیں۔

Rana Muhammad Qasim Noon: I, move under sub-rule (7) of rule 154 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly, 2007 read with Clause (3) of Article 70 of the Constitution, that the International Examination Board Bill, 2025, as passed by the National Assembly and not passed by the Senate within the stipulated period of 90 days, be referred to the Joint Sitting for consideration and passage.

Mr. Deputy Speaker: Now, I put the Motion to the House. The question is that the Motion, as moved, be adopted.

(The Motion was adopted.)

THE CAPITAL DEVELOPMENT AUTHORITY (AMENDMENT) BILL, 2026

جناب ڈپٹی سپیکر: شازیہ مری صاحبہ آپ کا کوئی بل ہے؟

شازیہ مری: سر! ایک تو میرے بل کی introduction ہے اور دوسرا میرا Item No. 71 important ہے۔ I know
 others کا بھی بزنس لینا ہے اگر I later on, whenever we are done with the other business then I
 Item Karachi Airport کے حوالے سے ہے۔ But ابھی میرا Item would like to also give priority because
 No. 10A ہے۔

I, move for leave to introduce a Bill further to amend the Capital Development Authority Ordinance, 1960 [The Capital Development Authority (Amendment) Bill, 2026].

Mr. Deputy Speaker: Now, I put the Motion to the House. The question is that the Motion, as moved, be adopted.

(The leave was granted.)

Mr. Deputy Speaker: Shazia Marri Sahiba to move Item No. 10B.

Shazia Marri: I, introduce [The Capital Development Authority (Amendment) Bill, 2026].

Mr. Deputy Speaker: The Bill in question stands introduced.

(The Bill was introduced.)

DISCUSSION UNDER RULE 87 REG: THE PROLONGED DELAYS BEING FACED BY THE PASSENGERS AT JINNAH INTERNATIONAL AIRPORT, KARACHI, PARTICULARLY DURING THE IMMIGRATION CLEARANCE AND ARRIVAL PROCESSING

جناب ڈپٹی سپیکر: آئٹم نمبر 71 شازیہ مری صاحبہ۔

شازیہ مری: سر! عالیہ کامران صاحبہ کا بھی کوئی ہے by any means I don't want to offend a Member here, but I am just requesting that please do consider giving me time on my agenda Item 71. It relates to the mismanagement at Karachi Airport by Federal Agencies. I, would also like the indulgence of the honourable Minister sitting here because public بہت پریشان ہے اس وقت تو میں اس کو formally اٹھاؤں گی۔ Once the other agenda Items by my

other honourable colleagues are moved, because

جناب ڈپٹی سپیکر: آپ بات کر لیں پھر طارق فضل چوہدری صاحب اس کا جواب دیں گے۔

on this urgent matter of public importance under discussion ہے: سر! میری تو discussion ہے
 rule, 87 اور وہ میں اس لیے move کرنا چاہ رہی ہوں جیسا کہ میں نے ابھی یہاں بیان کیا ہے کہ کراچی ایئرپورٹ کے اندر بہت سنگین مسائل
 and I want to raise these issues to discuss a matter of urgent public importance regarding the prolonged recurring delays being faced by the
 passengers at Jinnah International Airport, Karachi, particularly during the immigration clearance and arrival processing.

سر! issue یہ ہے اور سر! اہم نے بہت seriousness اس issue کی دیکھ کر یہاں raise کیا ہے اور ہم اس پر جواب چاہتے ہیں
 حکومت کا، خاطر خواہ جواب۔ کیونکہ یہ پاکستان کا busiest airport ہے۔ اور وہاں جس طریقے سے passengers خوار ہو رہے ہیں۔ اور
 mismanagement ہو رہی ہے by the concerned agencies وہ نہ صرف قابل تشویش ہے بلکہ قابل مذمت بھی ہے۔
 So, I would appreciate if the Government gives us a response. Response
 نہیں ہے سر ان issues کو address کرنا ضروری ہے۔ تو اگر ہمیں بتائیں کہ ان کو کتنی جلدی address کریں گے because تکلیف دہ
 حالات ہیں جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی کے Federal Government کا مکمل control ہے۔

جناب ڈپٹی سپیکر: شکریہ۔ طارق فضل چوہدری صاحب۔

جناب طارق فضل چوہدری: شکریہ جناب سپیکر۔ سر! آئر بیل ممبر نے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے اور وہاں پہ فرمایا
 ہے کہ وہاں mismanagement ہے اور مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کچھ flights کے schedule میں بھی delays
 آرہی ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ویسے بھی کل چونکہ اجلاس ہو رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جو بھی mismanagement یا problems
 ہیں۔

جناب ڈپٹی سپیکر: جی please جواب آنے دیں۔

جناب طارق فضل چوہدری: اس کے لیے سر! مناسب یہ ہے کہ کل چونکہ سیشن ہو رہا ہے۔ تو کل کے ایجنڈے پہ اس کو ہم رکھ لیتے ہیں اور جو
 concerned authorities اور Incharge Minister ہیں وہ آ کے پھر انشاء اللہ تعالیٰ ان کے سارے concerns کو
 address کریں گے۔

جناب ڈپٹی سپیکر: جی، شازیہ مری صاحبہ کا mic کھولیں۔

Sir, I think the Minister has misunderstood the issue. Delays in flights, schedule
 شازیہ مری: جی، Immigration counters discuss ہو رہا۔ Civil Aviation کی

management discuss ہو رہی ہے، the absence of trolleys for passengers discuss ہو رہی ہیں۔
 has nothing to do with the schedule of flights, so please lost in translation کو
 بنائیے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ Jinnah International Airport is the busiest airport of Pakistan
 with regard to international flights.

ہم تو شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے airports بھرے ہوئے ہیں۔ لیکن سر! وہ اس لیے crowded نہیں ہیں کہ بہت ساری
 flights آ جا رہی ہیں۔ Unfortunately آج وہ اس لیے crowded ہیں کہ immigration counters پہ عملہ کم ہے،
 lines کی mismanagement ہے، trolleys کا نظام دھرم بھرم ہوا ہوا ہے، ASF، Civil Aviation ہو۔ This is
 happening and the Federal Government has to look into it seriously.

جناب ڈپٹی سپیکر: جی، طارق فضل چوہدری صاحب۔

جناب طارق فضل چوہدری: گزارش یہ ہے کہ فاضل ممبر نے شاید Government کی intention کو غلط لیا ہے۔ اگر اس سوال
 کے جواب میں گو نگو وہاں سے مٹی ہی جھاڑنی ہوتی تو میں خود جھاڑ دیتا۔ کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن ان کی یہ ساری جو شکایات ہیں ان کا جواب دینا۔
 لیکن میں اسے سنجیدہ لے رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو کل کے agenda پہ رکھتے ہیں۔ میں نے لفظ استعمال کیا
 mismanagement کا جو کہ بھی آپ کی شکایات ہیں۔ ایک سے لے کے، 20 تک۔ اسے جو concerned Minister ہیں وہ
 آ کے address کریں گے۔

جناب ڈپٹی سپیکر: ہاں ٹھیک ہے۔

(مداخلت)

جناب ڈپٹی سپیکر: جی شبیر بھارانی صاحب آپ اس پہ ایک منٹ ایجنڈا پہ آرہے ہیں۔ رفیع اللہ صاحب آپ تشریف رکھیں۔ نہیں آپ اپنی
 مرضی سے تو نہ کریں ناں اس طرح۔ Agenda پہ آرہے ہیں۔ آپ ہی کے colleague بولنا چاہ رہے ہیں۔
 میر شبیر علی بھارانی: جی Thank you سپیکر صاحب۔ ہماری honourable Member شاز یہ مری صاحبہ نے جو issue
 highlight کیا ہے۔ جیسے انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں سب سے busiest airport Jinnah International Airport
 ہے اور آپ اس وقت social media پہ دیکھیں اور خبروں کو سنیں اور physically بھی وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ passengers
 کو کتنی دشواری پیش آرہی ہے۔

سب سے پہلے تو وہاں پہ porters نے ساری trolleys ساری ایئرپورٹ کے اندر block کر کے رکھی ہوئی ہیں اور جو passengers آتے ہیں باہر سے ان بیچاروں کو ٹرالیاں مہیا نہیں ہوتیں۔ Passengers اپنے دو، دو، تین، تین بیگز خود گھسیٹتے ہوئے اندر آتے ہیں۔ ایک تو یہ trolleys کا issue انہوں نے create کیا ہوا ہے، جو باہر porters ہیں وہ ان سے پیسے مانگتے ہیں۔

Number 2, immigration counters جو کراچی ایئرپورٹ پہ لگے ہوئے ہیں وہ کافی سارے خالی پڑے ہوئے ہیں۔ Immigration Officers وہاں نہیں ہیں تو وہاں لائینیں لگی ہوتی ہیں۔ اتنی بڑی لائینیں وہاں پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہماری ایک تو international flights کی timings بڑی سخت ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں international flights limited ہیں، Emirates جاتی ہے، Qatar Airline جاتی ہے اور Etihad Airline جاتی ہے۔ وہ time کی پابندی اور punctuality سے جاتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو passengers ہیں بیچارے immigration counters پہ پھنسے رہتے ہیں، کیوں کہ flights miss ہو گئیں۔ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔

تو جیسے طارق فضل صاحب نے کہا ہے کہ کل ہمارے Defense Minister کے اس کو respond کریں کیونکہ یہ بہت serious مسئلہ ہے۔ اور عوام کے لیے یہ بہت بڑی پریشانی کا باعث بن رہا ہے۔ تو kindly سپیکر صاحب! اس کا آپ نوٹس لیں اور حکومت کو تاکید کریں کہ ان issues کا ازالہ کیا جائے۔ Thank you.

جناب ڈپٹی سپیکر: کل ویسے ہے۔ سحر کامران صاحبہ۔

محترمہ سحر کامران: بہت شکریہ سپیکر صاحب۔ میں نے بھی کل اس پہ Calling Attention Notice جمع کرایا تھا۔ یہ ایک بہت اہم issue ہے کیونکہ کراچی ایئرپورٹ نہ صرف سب سے busiest ایئرپورٹ ہے بلکہ جب کوئی باہر سے آتا ہے یا جاتا ہے تو یہ پاکستان کا face بھی ہے۔

جتنی embarrassment وہاں پہ passengers کو اور پاکستان کو internationally ہو رہی ہے۔ اگر اس کو مد نظر رکھیں تو ہمیں ان issues کو address کرنا ہوگا کیونکہ نہ صرف یہ کہ immigration counters پر ایک بہت طویل lines لگی ہوئی ہوتی ہیں بلکہ health risk اور pollution بھی ہے کیونکہ لوگ وہاں پہ بہت زیادہ کھڑے ہوتے ہیں اور جگہ بھی نہیں ہوتی، تمام immigration counters بھی کام نہیں کر رہے multiple screening ہو رہی ہے luggage کی۔ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ اور اس کی وجہ سے لوگ وقت پہ جا نہیں سکتے۔ بعض لوگ اپنی flights کو miss کر رہے ہیں۔

2025ء میں صرف 51 ہزار passengers offload ہوئے تھے۔ Offloading کی پالیسی کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔

پھر اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے۔۔۔۔

جناب ڈپٹی سپیکر: ٹھیک ہے۔ یہ Adjournment Motion نہیں ہے please اعجاز جکھرائی صاحب ابھی میں نے Item No. 56 پہ آنا ہے تو پلیز یہ مجھے ایجنڈا کرنے دیں۔ اعجاز جکھرائی صاحب کا mic کھولیں۔

جناب اعجاز حسین جکھرائی: جی. Thank you.

جناب ڈپٹی سپیکر: دیسے یہ کل آرہا ہے تو کل جب منسٹر صاحب ہوں گے تو اس وقت تقریریں مناسب رہیں گی۔

(مدخلت)

جناب ڈپٹی سپیکر: امین صاحب، کل جب منسٹر صاحب ہوں گے تو پھر آپ اپنے views ان کے سامنے رکھیے گا کہ وہ جواب دے سکیں۔ جی جکھرائی صاحب۔

جناب اعجاز حسین جکھرائی: Thank you سر! یہ کراچی جناح ایئرپورٹ کا بہت burning issue ہے اور جیسے میرے honourable colleagues نے کہا ہے کہ busiest airport ہے۔ بالکل لوگ تین، تین، چار، چار گھنٹے پہلے چلے جاتے ہیں لیکن پھر بھی یہ ان کی immigration نہیں ہوتی اور بہت سے لوگوں کی flights miss ہو جاتی ہیں۔

سر! اور یہی حالت اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی بھی ہے۔ اس دن مجھے experience ہو، میں باہر جا رہا تھا ملک سے first time Islamabad airport کے through۔ سر! وہاں بہت حالت خراب ہے اسلام آباد ایئرپورٹ کی۔ بیچارے لوگ لائنوں میں گھنٹوں گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں اور پھر جا کر ان کی باری آتی ہے اور immigration counters خالی پڑے ہوتے ہیں اور کوئی بھی مسافروں کو entertain نہیں کر رہا ہوتا۔ میں چاہ رہا تھا کہ کراچی کے ساتھ اسلام آباد کا بھی یہی issue ہے۔ اس پہ نوٹس لیا جائے اور action ہونا چاہیے۔ Thank you Sir.

جناب ڈپٹی سپیکر: امین الحق صاحب، وہ منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا جواب دوں گا آپ بول لیں تو پھر اس کے بعد منسٹر صاحب respond کریں گے۔

سید امین الحق: بہت شکر یہ جناب والا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو Civil Aviation کی کارگردگی ہے پاکستان کے مختلف ایئرپورٹس پہ اور بالخصوص کراچی ایئرپورٹ پہ۔ ہم اگر دیکھتے ہیں کراچی ایئرپورٹ کو تو 1991ء میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ آج اگر دیکھا جائے تو 36 سال گزرنے کے بعد بھی کراچی ایئرپورٹ پہ ایک اینٹ کا اضافہ نہیں کیا گیا۔ اگر آپ وہاں international departure lounge پہ چلے جائیں، local پہ چلے جائیں۔ جناب والا! sanitation system بالکل تباہ و برباد ہے اور خاص کر اگر international departure lounge پہ چلے جائیں اور اگر عمرے کی فلائٹ کا time ہو۔ تو آپ کو پانی washroom کے باہر تیرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔

تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ صورت حال کیسی ہوتی چلی جا رہی ہے same is with the immigration. Immigration یہ آپ دو پہر کو جائیں، رات کو جائیں، صبح کے time پہ جائیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں لائینیں لگی ہوتی ہیں۔

میں سمجھتا ہوں کہ FIA کی capacity کو build up کیا جائے۔ آپ نے اگر 10 counters بنائے ہوئے ہیں تو 20 counters بنادیں تاکہ لوگوں کے پانچ سو آدمیوں کی لائینیں نہ لگیں بلکہ جلد از جلد اس کو مکمل کیا جائے۔ میری صرف دو التجائیں ہیں کہ 1991 کے بعد ہم نے دیکھا اسلام آباد ایئر پورٹ بن گیا، لاہور ایئر پورٹ بن گیا اور ملتان ایئر پورٹ بن گیا تو بھائی آپ کراچی ایئر پورٹ پر توسیع کے کام کو تو شروع کریں۔ آپ اس کو enhance تو کریں۔ آپ نے 36 سال گزرنے کے باوجود اس پر ایک روپے تک کی investment نہیں کی۔ اور وہ خستہ حال ہو کر چلتا جا رہا۔ میری عرض یہ ہے کہ منسٹر صاحب آپ کو اس پر نظر رکھنی ہوگی immigration system کو upgrade کرنا ہوگا اور کراچی ایئر پورٹ کا سسٹم جو کہ اب تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے آپ اس کا متبادل لے کر آئیں۔

جناب ڈپٹی سپیکر: شکریہ، طارق فضل چوہدری صاحب۔

جناب طارق فضل چوہدری: سر! اختیار بیگ صاحب کوئی بات کر رہے ہیں۔

جناب ڈپٹی سپیکر: اختیار بیگ صاحب ایک point پر بات کریں۔

مرزا اختیار بیگ: سر! اس میں ایک ہی point ہے کہ جتنی باتیں بتائی گئیں یہ بالکل ہم نے خود دیکھی ہیں اور یہ بڑھتی جا رہی ہیں لیکن ان پر ایک cover ڈالا جا رہا ہے کہ illegal immigrants کی documentation check کرنے کیلئے delay ہو رہا ہے اور اس میں واقعی جو genuine ہیں، جنہوں نے jobs کو employment visa, protector of immigrant وغیرہ سب کچھ کر دیا ہو ہے ان کو بھی extreme precautionary measures کے تحت روکا جا رہا ہے۔ تو اس میں کچھ parameters طے ہوں کہ کن لوگوں کو روکا جا سکتا ہے اور جو لوگ documents رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ non-immigrant جو business visit پر جا رہے ہیں ان کے لیے کوئی علیحدہ facilities ہوں کہ انہیں جانے دیا جائے۔ کیونکہ لوگوں کی flights miss ہو رہی ہیں۔

جناب ڈپٹی سپیکر: ٹھیک ہے کہ کوئی parameters طے کئے جائیں۔ طارق فضل چوہدری صاحب۔

جناب طارق فضل چوہدری: بہت شکریہ۔ سر! میری خواہش یہی تھی کہ اگر ہم اس ایجنڈے کو pend کر کے کل take up کر لیں تو

جو ہمارے concerned Minister ہیں وہ اسے properly respond کریں گے تاکہ جو Members کے concerns

ہیں وہ سارے address ہو سکیں لیکن اس کے بعد جب میں نے check کیا ہے تو چونکہ یہ Private Members' Day کا ایک

Item ہے تو اگر ہم اسے pend کریں گے تو یہ پھر اگلے Private Members' Day پر آئے گا۔ اس لئے میں نے کہا کہ میں ہی اس کو

respond کرتا ہوں۔

سر! گزارش یہ ہے کہ کراچی کا ایئر پورٹ یقیناً پاکستان کیلئے، ہماری معیشت کیلئے اور ہمارے passengers کیلئے بہت important ہے، یہ کسی ایک شہر کا نہیں بلکہ وہاں پر میں سمجھتا ہوں جیسے کراچی ہمارا economic Capital ہے اسی طرح کراچی ایئر پورٹ کی بھی اپنی ایک importance ہے۔ جن مسائل کا اظہار مختلف Members نے اپنی گفتگو میں کیا ہے، میں آپ سب کو assure کرتا ہوں، کہ میں نے سارے note کر لیے ہیں، جتنی بھی ہماری concerned authorities میں اُن تک یہ پہنچاؤں گا اور انہیں address کیا جائے گا۔ پاکستان گورنمنٹ اس وقت کچھ ایئر پورٹس کے حوالے سے یہ پالیسی بنا رہی ہے کہ شاید ہم انہیں Public Private Partnership model لے کے جائیں اور اُن کی management کو outsource کر دیں۔ اس کیلئے UAE نے اسلام آباد ایئر پورٹ کے حوالے سے بڑی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اس کی management ان کے حوالے کی جائے۔ اس کیلئے ہم ایک business model develop کر رہے ہیں لیکن یہ project ایک تجربے کے طور پر انشاء اللہ ہم کریں گے with this guarantee کہ یہ ایئر پورٹ کی management کیلئے بہتر ثابت ہوگا اور مسافروں کیلئے سہولت ہوگی۔ اس میں جو کوئی problems یا hiccups ہیں، جیسے ابھی جناح انٹرنیشنل ایئر پورٹ کے حوالے سے بات کی گئی ہے، وہ اگر کسی جگہ ہیں تو انہیں دور کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس model کو بھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر اس کی management کو outsource کر سکیں لیکن اس کیلئے جو ہم اتحادی جماعتوں سے بھی بات کریں گے۔ With this assurance کہ House کے جو concerns ہیں وہ address کئے جائیں گے۔ آپ اس کیس کو Government کی Assurances Committee کی اگلی Committee meeting میں refer کر سکتے ہیں تاکہ جو Members کے concerns ہیں ہم Government Assurance Committee میں دوبارہ ان کو بتائیں گے کہ ان کے اوپر کیا کیا کارروائی ہو چکی ہے۔

Thank you Sir. ہے۔

جناب ڈپٹی سپیکر: طارق فضل چوہدری صاحب آپ کی یہ صحیح تجویز ہے کیونکہ پورے House کے بڑے concerns ہیں، اور بھی بہت سے لوگ بولنا چاہتے ہیں۔

(مداخلت)

جناب ڈپٹی سپیکر: یہ ایجنڈا کرنے دیں، آغا صاحب کا ہے، دوسرے اور دو تین ممبران ہیں۔ عبدالقادر ٹیل صاحب کا mic کھولیں۔

جناب عبدالقادر ٹیل: سر! بات یہ ہے کہ منسٹر صاحب نے ابھی ایک out source کی بات کی، ہم seaport outsource کر چکے ہیں۔ کئی چیزیں ہم outsource کر چکے ہیں، میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ان کا آگے چل کر گورنمنٹ کو outsource کرنے کا بھی کوئی plan ہے؟

**AMENDMENTS TO THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN
THE NATIONAL ASSEMBLY, 2007**

Mr. Deputy Speaker: Thank you. Item No. 56. Agha Rafiullah.

سیدر فوج اللہ: شکریہ۔ جناب سپیکر! یہ جو اس وقت House میں زیر بحث issue ہے اس پر حقیقت میں سب کے concerns ہیں۔ میرا ذاتی مشاہدہ ہے outsource کرنا کوئی حل نہیں ہے اس کے لیے کیونکہ جو انہوں نے outsource کیا ہوا ہے، وہاں porters ساری ٹرالیاں اندر کھڑی کر دیتے ہیں، وہاں جب passengers آتے ہیں تو وہ پھر ٹرالیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ دو ہزار، چار یا پانچ ہزار دو، پھر passenger بیچارا مجبور ہو کر دیتا ہے۔ انہوں نے ٹرالیاں اندر رکھی ہوتی ہیں، وہ outsource کی ہوئی ہیں تو outsource کوئی حل نہیں ہے۔ جناب سپیکر! میں ایجنڈے پر آ جاتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو۔

جناب ڈپٹی سپیکر: کوئی بات بری نہیں لگی، جناب آپ بولیں۔

سیدر فوج اللہ: شکریہ۔ قومی اسمبلی میں کارروائی اور طریق کار کے قواعد 2007 کے قاعدہ 293 کے ذیلی قاعدہ (5) کے تحت تحریک پیش کرتا ہوں کہ مذکورہ قواعد کے قاعدہ 73، 70 اور 250 میں مجوزہ ترامیم قائمہ کمیٹی کی رپورٹ کردہ صورت میں فی الفور زیر غور لائی جائیں۔

جناب ڈپٹی سپیکر: طارق فضل چوہدری صاحب mic کھولیں، Do you oppose it?

جناب طارق فضل چوہدری: نہیں سر! I do not oppose it، یہ کمیٹی سے پاس ہو چکا ہے۔

Mr. Deputy Speaker: Now, I put it to the House. It has been moved that under sub-rule (5) of rule 293 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly, 2007, that the proposed amendments in rules 70, 73 and 250 of the said rules, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once.

(The Motion was adopted.)

جناب ڈپٹی سپیکر: آئٹم نمبر 57، آغا صاحب پڑھیں۔

سیدر فوج اللہ: میں تحریک پیش کرتا ہوں کہ قومی اسمبلی میں کارروائی اور طریق کار کے قواعد 2007 میں مجوزہ ترامیم منظور کی جائیں۔

Mr. Deputy Speaker: Now, I put it to the House. It has been moved that the proposed amendments in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly, 2007, be adopted.

(The Motion was adopted.)

**AMENDMENT TO THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN
THE NATIONAL ASSEMBLY, 2007**

Mr. Deputy Speaker: Item No. 58. Aliya Kamran Sahiba.

محترمہ عالیہ کامران: محترم آپ کا بہت شکریہ۔ لیکن میں یہ Item move کرنے سے پہلے آپ سے اجازت چاہتی ہوں کہ مجھے دو لائنوں میں اپنی بات مکمل کرنے دیں۔ ایک تو میں اپنی محترم colleague سے گلہ کرنا چاہتی ہوں اور آپ سے بھی ایک گلہ بنتا ہے۔ محترم! ہم سب یہاں پر legislation کے لئے بیٹھے ہیں اور ہم سب کا برابر right ہے لیکن ہمیں برابری کے حساب سے deal نہیں کیا جا رہا۔ سر! میرا یہ گلہ آپ سے ہے۔ دوسرا، یہ کہ اگر supplementary Private Member's Bill آجاتا ہے تو rules یہ ہیں، اصول اور ہماری practice یہ ہے کہ پورا agenda جب ختم ہو جاتا ہے تب آتا ہے۔ جو میری بہن نے Capital Development Authority Ordinance, 1960 میں مزید ترمیم کا بل پیش کیا تو یہ end پر لیا جانا چاہیے تھا، یہ بڑا اچھا Bill ہے اور ہم اس کو support کرتے ہیں۔

جناب ڈپٹی سپیکر: آپ Chair کو challenge تو نہ کریں۔ آپ کے سب ہوں گے، آپ جلدی میں نہ آیا کریں کہ میرا agenda ہو جائے اور میں گھر چلی جاؤں۔ Please اس طرح تو نہ کریں۔

محترمہ عالیہ کامران: سر! میں تو صرف بتا رہی ہوں، ابھی اگر آپ اس طرح بولیں گے تو آپ کی مرضی۔
جناب ڈپٹی سپیکر: نہیں آپ بولیں۔

محترمہ عالیہ کامران: سر! آپ دیکھ لیجئے۔ میں ابھی آپ کے سامنے ہماری جو rules کی book ہے، اب آپ اس کو challenge سمجھیں یا کچھ بھی سمجھیں، میں تو بتانا چاہتی ہوں، میں challenge نہیں کر رہی۔ میں کل بھی یہاں پر بات کر رہی تھی کہ جب ہم یہاں پر اپوزیشن میں تھے تو میں پیپلز پارٹی سے سیکھتی رہی، اپنی محترمہ بہن سے سیکھتی رہی کہ ہم کس طرح سے ان قواعد کی بات کرتے تھے اور آج ہم ان ہی کی طرح سے، شازیہ سن بھی رہی ہیں کہ ہم نے جس طرح سے ان rules کی violation کی۔ Before last Calling Attention Notice یہ جو 87 rule کے تحت یہاں پر discussion جو Urgent Public Importance کی ہے تو یہ اس پر آتا ہے، تو اس لئے سے میں کہہ رہی ہوں کہ ہم سب ممبران برابر ہیں۔ محترم ہم یہی کر سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ بات رکھیں لیکن سر! اس پر بھی بہت شکریہ کہ آپ نے میرا agenda لے لیا جو کہ کافی مہینوں سے، بلکہ تقریباً ایک سال سے pending تھا۔

Ms. Aliya Kamran: I move under sub-rule (5) of rule 293 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly, 2007 that the proposed amendments in Rule 208 of the said rules, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Tariq Fazal Chaudhary Sahib, do you oppose it?

Mr. Tariq Fazal Chaudhary: No Sir! I do not oppose.

Mr. Deputy Speaker: Now, I put it to the House. It has been moved that under sub-rule (5) of rule 293 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in

the National Assembly, 2007 that the proposed amendments in Rule 208 of the said rules, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once.

(The Motion was adopted.)

Mr. Deputy Speaker: Item No. 59. Aliya Kamran Sahiba.

Ms. Aliya Kamran: I move that the proposed amendments in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly, 2007, be adopted.

Mr. Deputy Speaker: Now, I put it to the House. It has been moved that the proposed amendments in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly, 2007, be adopted.

(The Motion was adopted.)

جناب ڈپٹی سپیکر: آئٹم نمبر 60، مہ جبین خان عباسی صاحبہ، نہیں ہیں تو اس کو defer کرتے ہیں اور Calling Attention Notice لیتے ہیں۔ آئٹم نمبر 73، نعیمہ کشور خان صاحبہ۔

CALLING ATTENTION NOTICE REG: THE EMERGENCE OF NEW POLIO CASES IN THE COUNTRY

محترمہ نعیمہ کشور خان: وزیر برائے قومی صحت خدمات، ضوابط و معاونت کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والے فوری عوامی اہمیت کے معاملے کی جانب دلاؤں گی جو ملک میں پولیو کے نئے کیسز سامنے آنے سے متعلق ہے۔

جناب ڈپٹی سپیکر: طارق فضل چوہدری صاحب اس کالنگ اٹینشن کا آپ جواب دیں گے، پولیو کے بارے میں ہے؟

جناب طارق فضل چوہدری: اس میں جو ہماری State Minister ہیں۔ میں چیک کر کے بتاتا ہوں وہ چونکہ موجود تھیں، جو State Minister ہیں ابھی میرے خیال میں وہ ہیں نہیں۔ اس لیے اس کو کل پر لے جائیں۔

جناب ڈپٹی سپیکر: ٹھیک ہے اگر prepared نہیں ہیں تو اس کو کل کے لیے ڈیفر کر دیتے ہیں۔

POINTS OF ORDER

جناب ڈپٹی سپیکر: جنید اکبر صاحب بولنا چاہ رہے تھے۔ شیر علی صاحب کا مائیک کھولیں۔

(مداخلت)

جناب شیر علی ارباب: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ I speak rarely I دیکھ لیں Madam speak regularly۔ چلیں آپ بات

کر لیں۔

جناب ڈپٹی سپیکر: شازیہ مری صاحبہ پلیز جلدی سے۔

شازیہ مری: ممبر کبھی کبھی ہاؤس میں آتے ہیں anyway میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آئزبل کو لیگ نے میرا نام لیا ہے میں ان کی بہت عزت اور احترام کرتی ہوں اور رولز کا بھی بہت احترام کرتی ہوں اور میں نے بار بار مائیک پر on the record یہ کہا کہ میرا آکٹم ہے میں آپ کی توجہ ضرور چاہتی ہوں اور اس کی priority بھی میں چاہوں گی کہ ایجنڈا ختم ہونے سے پہلے۔ یہ نہ ہو کہ ہاؤس adjourn ہو جائے۔ میں اس آئزبل کو لیگ کا نام بھی لیتی رہی کاش وہ یہ کہتی کہ ممبر نے بھی کوشش کی کہ فلور مجھے دلائیں۔ چلیں appreciation مجھے اس چیز کی نہیں ملی۔
But, I want to clear this that if the honourable Chair ask me to bring that issue, I could not say "no" to the honourable Chair of this august House. Thank you Sir.

جناب ڈپٹی سپیکر: شکریہ، مجھے اس جھگڑے میں نہیں پڑنا پلینز۔ آپ بھی شکوہ اور جواب شکوہ میں نہ پڑیں۔

جناب شیر علی ارباب: شکریہ، جناب سپیکر! آپ سے صرف ایک request ہے، and I want your attention,

Deputy Speaker Sahib.

جناب ڈپٹی سپیکر: جی حکم۔

جناب شیر علی ارباب: میری جو بھی بات آپ کو بری لگے تو you have the right کہ آپ اس کو حذف کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ نہ ہو کہ ہم بات کریں اور اس کے بعد سنسور بورڈ یہاں پر ایک سرکاری لگا ہوا ہے وہ ہماری speech cut کر کے ہمیں دیتے ہیں اس practice کو kindly discourage کریں۔ اسی لیے ہم آتے بھی نہیں یہاں پر۔

جناب ڈپٹی سپیکر: سنسور بورڈ Chair ہی ہے، آپ بولیں۔

جناب شیر علی ارباب: ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ ڈیفنس منسٹر نہیں ہیں، ان سے میں دو ایٹوز پر بات کرنا چاہ رہا تھا۔

اس کو ہم کبھی بھی encourage نہیں کرتے ہیں کہ کسی بھی فوجی سربراہ کے بارے میں نازیبا الفاظ بولے جائیں۔ لیکن Frontier Crimes Regulation پختونخوا سے ختم ہو چکا ہے۔ اگر کوئی ایک شخص غلطی کرتا ہے تو اس کی سزا اس کی extended family کو پشاور میں نہ دی جائے۔ اس practice کو kindly discourage کیا جائے کیونکہ اس قسم کی practice سے کافی ایٹوز آتے ہیں even counter-terrorism operations effect ہوتے ہیں۔

اب آتے ہیں terrorism پر۔ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ دہشت گردی کا ہے۔ Interesting بات یہ ہے کہ حالات اتنے خراب ہوئے کہ دہشت گردی اسلام آباد تک پہنچ گئی۔ بلوچستان میں دہشت گردوں نے 12 مقامات پر حملہ کیا باقی جگہوں پر بھی۔ ابھی تک انٹریٹیز منسٹر کو ہاؤس میں نہیں دیکھا کہ انٹریٹیز منسٹر آکر ان چیزوں کا جواب دیں۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردی پر پارلیمنٹ میں بات ہو اور پارلیمنٹ اس میں lead لے اور پارلیمنٹ کا حال یہ ہے کہ ڈیفنس منسٹر نے کل حاضری دی لیکن جو انٹریٹیز منسٹر ہیں وہ ابھی تک ان چیزوں پر نہیں آئے۔ This is the level of seriousness of the Government. ہم کہتے ہیں کہ فلاں دہشت گردی کا سہولت کار ہے اور

فلاں دہشت گردی کا سہولت کار ہے۔ لیکن جن کا کام ہے پاکستان کی internal security کو دیکھنا وہ صاحب یہاں پر موجود نہیں ہوتے، یہ افسوسناک بات ہے۔ اگر اسی طرح کے حالات رہے مطلب ٹھیک ہے I am sure پاکستان کرکٹ بورڈ بہت زیادہ important ہے لیکن یہ ملک کی سکیورٹی بھی important ہے دہشت گردی پر ہمیشہ سے ہمارا ایشو کیا رہا ہے۔ ہم نے افغان جہاد کے ٹائم پر سوچا there has to be a strategic depth۔ ہم anti-terrorism policy بناتے ہیں اس کی نہ کوئی ownership ہوتی ہے نہ اس کے بعد کوئی accountable ہوتا ہے۔ War on terror کے اندر ہمارے ملک کو اربوں کا نقصان ہوا۔ اس کا کوئی جواب اور کوئی پوچھ کچھ نہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری anti-terror policies inclusive نہیں ہوتیں۔ They are exclusive۔ یہاں پر اس کے اندر civilian and political stakeholders کا کم سے کم role ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں میں نے کل کہیں بات بھی کی تھی کہ ہم نے کہا کہ terrorist افغانستان سے آتا ہے تو ہمیں ہار لگانا چاہیے۔ ہار لگی لیکن terrorism میں کمی نہیں آئی۔

دوسرا problem ہم نے کیا کیا؟ جو ہمارے سب سے زیادہ دو terrorism-hit اور پسماندہ صوبے ہیں بلوچستان اور پنجتو ننحو اہاں کے لوگوں کا ایک ہی ذریعہ معاش تھا ہمارے formal borders کے اوپر کاروبار۔ بارڈرز ہم نے دہشت گردی کے نام پر بند کر دیے ہیں۔ لوگوں کے کاروبار ہم نے خراب کر دیے ہیں، لیکن دہشت گردی میں کمی نہیں آئی۔ حال ہی میں ابھی کل پرسوں مولانا صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ افغانستان سے سبب نہیں آسکتا، کھجور نہیں آسکتی تو یہ دہشت گرد کہاں سے آتے ہیں۔ So, we need to revisit the policy۔ اب ہم NACTA کی آپ بات کر لیں۔ APS ہوا۔ APS کے بعد NACTA بھی بنا، اس کے اندر 14 ہمارے ایکشن پوائنٹس بھی بنے۔ ان سب چیزوں میں صرف ایک چیز regularly ہوتی ہے اور وہ ہے Apex Committee جس کا ایک executive order ہے کیبنٹ صوبے کے اندر یا ملک کے اندر آپ کا ایک آئینی ادارہ ہے اس کی جگہ apex committee کر دی۔ NACTA پر عبدالقادر ٹیل صاحب نے پرسوں کہا کہ جو چیزیں ہمیں suit کرتی ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں اور جو suit نہیں کر رہی ہوتیں تو کل کو کوئی ایسا واقعہ ہو گا تو ہمیں NACTA بھی یاد آجائے گا اور counter-terrorism policy بھی یاد آجائے گی۔ ہمارے وہ نکات بھی یاد آجائیں گے جو APS کے بعد طے ہوئے تھے۔ اگر ہم اسی طرح cold-storage میں چیزیں رکھیں گے اور حسب حال اور حسب ضرورت اس کو استعمال کریں گے تو terrorism میں اضافہ تو ہونا ہی ہے۔ بلوچستان میں جس طرح کے حالات ہیں میں صرف یہ دعا کرتا ہوں for the sake of Pakistan and our armed forces and police کہ وہاں کا public tilt ابھی بھی پاکستان کی طرف ہے۔ Because if that tilt خدائے خواستہ آگے پیچھا ہو گیا تو پھر حالات 1971 کی طرف چلے جائیں گے۔ سر! ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حال ہی میں ہمارا recently بھارت کے ساتھ چار دن کا ایک conflict ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس میں ہمیں فتح نصیب ہوئی۔ اس دوران ایک چیز خاص طور پر قابل توجہ تھی۔

ہم نے اپنی ایگزٹورس کے افسران کو دیکھا اور ہم نے ایگزٹورس کے DGPR کو بھی دیکھا۔ دن کے وقت ایگزٹورس perform کرتی تھی اور شام کو DGPR نہایت پروفیشنل انداز میں پریس کانفرنس conduct کرتے تھے۔ جنگ کے بعد DGPR out of the screen وہ اس وقت اتنے popular ہو گئے کہ کبھی ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ کہیں وہ خان صاحب کی مقبولیت کے قریب نہ آجائیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہمارے پاس حل موجود ہے۔ جو افسر یا نمائندہ اپنے آپ کو professionally conduct کرے گا، عوام میں اس کی پذیرائی ضرور ہوگی۔ اگر ہم نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو سیاستدانوں کو بھی تھوڑی بہت spine develop کر کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ غلطیاں ہر سیاستدان اور ہر سیاسی جماعت نے کی ہیں۔ بہت شکر یہ۔

جناب ڈپٹی سپیکر: شکر یہ۔ اسد نیازی صاحب on Point of Order -

جناب اسد عالم نیازی: شکر یہ، سپیکر صاحب! ہمارے honourable colleagues ایگزپورٹس اور سول ایوی ایشن کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میرے خیال میں وزارتِ داخلہ کی جانب سے کچھ نئے rules introduced کروائے گئے ہیں، which is not bad خاص طور پر ان افراد کے حوالے سے جو غلط طریقے سے بیرون ملک چلے جاتے تھے۔ ان رولز کو نافذ کرنے میں probably کچھ وقت لگ رہا ہے، لیکن اس کو speed up کی ضرورت ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بیرون ملک سے آنے والے بہت سے افراد کے پاس پروٹوکول نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ملک میں سول ایوی ایشن کے اندر کوئی واضح نظام موجود نہیں ہے، جیسے بزنس کلاس کے لیے الگ لائن، E lines مختلف ممالک میں آپ نے بنائی ہیں۔ اس کی وجہ سے عام مسافروں کو شدید تکلیف ہوتی ہے اور بیرون ملک سے آنے والوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا خیال رکھیں تاکہ پاکستان کا نام باہر اچھے انداز میں پیش ہو۔ I will request اس معاملے کو کمیٹی کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ اس پر فیصلہ کر سکے۔ کیونکہ اگر کسی ایگزپورٹ پر تین فلائٹس اکٹھی آجائیں تو وہاں کی صورت حال بہت خراب ہو جاتی ہے۔ You have been travelling -also

جناب ڈپٹی سپیکر: شکر یہ۔ شبیر علی قریشی صاحب on Point of Order -

جناب محمد شبیر علی قریشی: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ شکر یہ جناب سپیکر! سب سے پہلے میں اسلام آباد میں امام بارگاہ پر ہونے والے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ ہمارا دین کسی گروہ کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی کی تکفیر کرے اور قتل عام کرے۔ یہ یزیدی ٹولے کی پرانی روش ہے کہ وہ سجدوں میں وار کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کے دار الحکومت پر حملہ ہے، عوام پر حملہ ہے اور پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے۔ ریاست کا فرض بنتا ہے کہ ذمہ داران، منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کے خلاف سخت کارروائی کرے، انہیں trace کرے اور ان کا قلع قمع کرے۔

جناب سپیکر! اگر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے تو سب سے ضروری چیز قومی اتحاد ہے۔ لیکن قومی اتحاد کیسے قائم ہوگا، جبکہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو پچھلے تین سال سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ پاکستان کے مقبول رہنما عمران خان صاحب اور پارٹی رہنماؤں پر دہشت گردی کے پرچے بنائے گئے ہیں اور ان کو دہشت گرد declare کر رکھا ہے۔ ہمارے ہزاروں کارکنان ناحق جیل میں ہیں۔

جناب ڈپٹی سپیکر: آپ Point of Order پر بول رہے ہیں۔ آپ بتائیں کہ rules کے مطابق آپ کا Point of Order کیا

ہے۔

جناب محمد شبیر علی قریشی: جناب سپیکر! ہمارا لیڈر ناحق قید میں ہے۔ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ انہیں ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی ہے جس میں بینائی جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس پر حکومت کا رویہ شرمناک ہے۔ جب نواز شریف صاحب بیمار ہوئے تھے تو عمران خان صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے وزیر صحت کو ہدایت دی تھی کہ انہیں ہر ممکن سہولت دی جائے، ان کے معالج کو ان تک رسائی دی جائے، ان کے ٹیسٹ کرائے جائیں اور ان کو علاج کے لیے بیرون ملک بھیجا گیا۔ لیکن عمران خان صاحب کے ذاتی معالج کو رسائی نہیں دی جا رہی، نہ ہی فیملی کو۔ میرا مطالبہ ہے کہ ایک میڈیکل بورڈ بنایا جائے، جس میں آنکھ کے specialists شامل ہوں، جس میں حکومت اور ہماری پارٹی دونوں کے نمائندے شامل ہوں، تاکہ خان صاحب کے ذاتی معالج جا کر ان کا معائنہ کریں، ان کے ٹیسٹ کرائیں اور جو بھی ان کا بہتر علاج وہ تجویز کریں اس پر عملدرآمد کرتے ہوئے ان کو مہیا کیا جائے۔ شکریہ۔

جناب ڈپٹی سپیکر: شرمیلا فاروقی صاحبہ۔

ڈاکٹر شرمیلا فاروقی: شکریہ، سپیکر صاحب! میں ایک انتہائی اہم مسئلے پر بات کرنا چاہتی ہوں۔ جس پر اس ایوان میں انتہائی محترم، انتہائی معتبر اور انتہائی سینئر رکن کو اس پر تقریر کرتے ہوئے سنا۔ سر! چونکہ وہ Joint Session تھا۔ اس میں ہمیں جواب دینے کا موقع نہیں ملا۔ آج آپ کی مہربانی کہ آپ نے موقع دیا ہے۔ سر! میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں اس ملک کی کم عمر بچیوں کی، جن کی کم عمری میں شادی کر دی جاتی ہے۔ اس ایوان نے بڑی جدوجہد، تکلیف دہ مراحل اور تفصیلی deliberations کے بعد قانون سازی کی۔ یہ بچیاں کبھی غربت کی وجہ سے کم عمری میں بیاہ دی جاتی ہیں، کبھی والدین انہیں پال نہیں سکتے، کبھی انہیں پیسوں کے عوض بڑی عمر کے مرد سے شادی پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔

سب سے پہلے سندھ میں چائلڈ میرج کا قانون بنا۔ یہاں میرے colleagues بیٹھے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ وہاں قانون سازی کی اور وہ قانون unanimously pass ہوا تھا۔ خواتین بیٹھی ہیں، مرد حضرات بیٹھے ہیں۔ سر! ہمارا ایک بڑا milestone تھا، یہ ہمارے لیے بڑی جیت تھی۔ اس ایوان میں مختلف لوگوں نے مختلف ادوار میں کوشش کی لیکن قانون پاس نہیں ہو سکا۔ سر! 2025 میں ICT Child Marriage Restraint Bill pass ہوا، سینیٹ سے منظور ہوا اور صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے اس پر دستخط کیے تو وہ قانون بن گیا۔ And I am so proud of the President because جب President کے signature کا وقت آیا تو ایک call دی گئی کہ ملک گیر احتجاج ہوگا اگر صدر مملکت نے اس قانون پر دستخط کیے۔ But President Asif Ali Zardari chose to be on the right side of history. Chose to be with the daughters of this nation and he signed the Bill. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ گیارہ، بارہ، تیرہ سال کی بچی۔۔۔

جناب ڈپٹی سپیکر: Wind up کریں۔ Point of Order پر اتنا نہیں ہوتا اور بھی ممبران نے بولنا ہے۔

ڈاکٹر شرمیلا فاروقی: سر! یہ بہت اہم issue ہے۔ اس پر بڑی تفصیلی discussion ہو چکی ہے، Joint Session میں بھی آدھے گھنٹے تک گفتگو ہوئی ہے۔ سر! مجھے جواب دینا ہے، کیونکہ نہ صرف میں اس قانون کی بانی ہوں بلکہ میرے ساتھ یہ پورا ایوان اس قانون کا Custodian ہے۔ اگر اس ایوان کے اندر ایک رکن قومی اسمبلی، جو خود قانون ساز ہے، کھڑے ہو کر اس قانون کو challenge کرتے ہیں تو سر! اس کی سزا کیا ہے؟ اگر آپ نے اس ایوان میں Oath لیا ہے کہ آپ نے اس ایوان کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے۔ لیکن اس ایوان میں ایک قانون پاس ہوتا ہے اور آپ اس کو challenge کرتے ہیں، اور پھر آپ ریاست کو لاکارتے ہیں کہ کر لو جو میرا آپ کر سکتے ہیں، تو سر! اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ یہاں پر کوئی جواب دینے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ یا یہ کہہ کر، یہ سن کر کہ جی یہ شرعی معاملہ ہے، یہ اسلامی معاملہ ہے؟ نہیں، یہ شرعی معاملہ نہیں ہے، یہ اسلامی معاملہ نہیں ہے۔

جناب ڈپٹی سپیکر: شکر یہ، مبارک زیب صاحب۔ Point of Order پر۔ اتنی senior Parliamentary ہیں، آپ نے چھ منٹ بات کی ہے، Point of Order پر اتنا ہی ہوگا، دوسرے honourable Members بھی بولنا چاہتے ہیں۔ آپ Chair کی request مانیں۔ شکر یہ۔

معاون خصوصی برائے وزیراعظم (جناب مبارک زیب): شکر یہ جناب ڈپٹی سپیکر! 31 جنوری 2024 صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ ہماری قومی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے۔ یہ وہ دن تھا جب ایک تعلیم یافتہ، باکردار اور باہمت نوجوان کو ہم سے چھین لیا گیا۔ وہ نوجوان جو ایک مظلوم، محروم اور بے بس قوم کی آواز تھا۔ وہ صرف ایک فرد ہی نہیں تھا بلکہ ایک سوچ، ایک امید اور ایک حوصلہ تھا۔ ہر سانچے میں سب سے پہلے اور ہر مشکل میں سب سے آگے کھڑا ہونے والا۔ جناب سپیکر! جب دنیا کو رونا جیسی خطرناک وبا کے دوران گھروں تک محدود ہو گئی تھی، تو وہ نوجوان اپنی ٹیم کے ساتھ میدان میں تھا، اپنی جان کی پروا کیے بغیر، خالص جذبہ خدمت کے تحت قوم کی خدمت کرتا رہا۔ جناب سپیکر! وہ ہر مشکل میں، ہر سانچے میں اپنی بے سہارا قوم کا سہارا بنا۔ وہ قبائلی نوجوانوں کی آخری امید تھا، ان کا نمائندہ، ان کا سہارا، ان کی آواز تھا۔ جناب سپیکر! آٹھ فروری کو اس معزز ایوان میں آکر اپنی قوم کا مقدمہ لڑنا چاہتا تھا۔ لیکن افسوس، اس ایوان تک پہنچنے سے پہلے، 31 جنوری کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ جناب سپیکر! میں شہید ریحان زیب خان کی بات کر رہا ہوں۔

اس دن سے لے کر آج تک ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر دل سوگوار ہے اور ہر نوجوان کے دل میں مایوسی ہے۔ شہید میرا بھائی تھا، لیکن وہ صرف میرا نہیں، پوری قوم کا بیٹا تھا۔ جناب سپیکر! جب لوگ مجھ سے میرے بھائی کے قاتلوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے، حوصلہ نہیں ہوتا، کیونکہ میرا بھائی دن دیہاڑے، کیمبرے کے سانسے، مین بازار میں پولیس چیک پوسٹ کے ساتھ بے دردی سے شہید کیا گیا، اور آج تک ان کے قاتل آزاد گھوم رہے ہیں۔ یہ صرف ایک قتل نہیں، یہ انصاف کے نظام کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ میں وزیراعظم پاکستان اور صدر پاکستان

کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے شہید بھائی ریحان زیب خان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں پاکستان کے اعلیٰ civil award کے لیے نامزد کیا۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، لیکن قوم کا آج بھی وہی مطالبہ ہے، پہلے انصاف، پھر ایوارڈ۔ میں اس معزز ایوان کے ذریعے وزیر اعظم پاکستان، وزیر داخلہ، IG KP اور تمام intelligence اداروں سے پُر زور مطالبہ کرتا ہوں کہ شہید ریحان زیب خان کو انصاف دیا جائے، ان کے قاتلوں کو گرفتار کر کے کیفرِ کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ یہ قوم جان سکے کہ اس ملک میں شہیدوں کا خون رائیگاں نہیں جاتا، اور قانون صرف کمزور کے لیے نہیں بلکہ قاتلوں کے لیے بھی برابر ہے۔ شہید زندہ ہوتے ہیں، اور ریحان زیب خان آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ شکر یہ۔

جناب ڈپٹی سپیکر: شکر یہ، طارق فضل چوہدری صاحب، آپ کے انتظار میں تھے کہ یہ جو ابھی point raise ہوا تھا، یہ airport کے بارے میں civil aviation کی شکایت تھی۔ بہت سارے ممبران کی concerns ہیں، تو اس کو پھر ہم کمیٹی کو بھیجتے ہیں تاکہ وہاں اس پر سارے ممبران deliberation کر سکیں اور جواب بھی آئے۔

Mr. Deputy Speaker: The House is adjourned to meet again on Wednesday, the 11th February, 2026, at 11:00 a.m.

(The House was adjourned to meet again on Wednesday, the 11th February, 2026, at 11:00 a.m.)